

ADVICE FOR INVESTORS

INVESTMENT IN EQUITY SECURITIES AND EQUITY RELATED SECURITIES INVOLVES A CERTAIN DEGREE OF RISKS. THE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ THE RIGHTS SHARE OFFER DOCUMENT (HEREIN REFERRED TO AS 'OFFER DOCUMENT') AND RISK FACTORS CAREFULLY, ASSESS THEIR OWN FINANCIAL CONDITIONS AND RISK-TAKING ABILITY BEFORE MAKING THEIR INVESTMENT DECISIONS IN THIS OFFERING.

RIGHT ENTITLEMENT LETTER IS TRADABLE ON PSX, RISKS AND REWARDS ARISING OUT OF IT SHALL BE SOLE LIABILITY OF THE INVESTORS.

THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR THE PURPOSE OF PROVIDING INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND TO THE PUBLIC IN GENERAL IN RELATION TO THE RIGHTS ISSUE OF PKR 987,298,500/-, CONSISTING OF 98,729,850 NEW ORDINARY SHARES BY IMAGE PAKISTAN LIMITED. A COPY OF THIS DOCUMENT HAS BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES EXCHANGE.

THIS OFFER DOCUMENT IS VALID TILL JUNE 23, 2024.



Image Pakistan Limited
Right Share - Offer Document

Date and place of incorporation: November 14, 1990, Pakistan, **Incorporation number:** 0022754.

Registered Office: F/538, SITE, Karachi-75700, Sindh.

Corporate Office: A/33, Central Commercial Area, Block 7/8, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-Sindh

Contact No: +92-21-32582613, **Website:** www.imagepakistan.com, **Contact Person:** Mr. M. Haroon Saeed, Phone: +92-21-32582613, **Email:** haroon@image.net.pk (To contact during business hours i.e. from Monday to Friday from 9:00 am to 5.00 pm.)

Issue Size: The Right Issue consists of 98,729,850 Right Shares (i.e. 75% of the existing paid-up capital of Image Pakistan Limited) having a face value of PKR 10/- each, at an offer price of PKR 10/- each. The total amount to be raised through the Right Issue is PKR 987,298,500/-.

Date of Placing Offer Document on PSX for Public Comments: N/A (Public comments were not sought)

Date of Final Offer Letter: March 1, 2024

Date of Book Closure: From March 8, 2024 to March 15, 2024

Subscription Amount Payment Dates: From March 25, 2024 to April 23, 2024

Trading Dates for Letter of Rights: From March 25, 2024 to April 16, 2024

Details of the relevant contact persons:

	Name of the Person	Designation	Contact Number	Office Address	Email ID
Authorized Officer of the Issuer	Mr. M. Haroon Saeed	Company Secretary	+92 21-32582613	A/33, Central Commercial Area, Block 7/8, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi	haroon@image.net.pk
Underwriters					
M. Munir M. A. Khanani Securities Limited	Mr. M. Munir Khanani	Chief Executive	+92 21-36490034	Room No. 601-603, 6 th Floor, Stock Exchange Building, Karachi	support@munirkhanani.com
MRA Securities Limited	Muhammad Zubair	Head of Compliance	+92 21-32410136	Room No. 739-741, 7th Floor, Stock Exchange Building, Karachi	zubair@mra.com.pk
Intermarket Securities Limited	Wajid Hussain	Chief Executive	+92 21-111467000	Bahria Complex-IV, (Extension Block), 5th Floor, Ch. Khalique-uz-Zaman Road, Karachi	wajid.hussain@imsecurities.com.pk
Dawood Equities Limited	Abdul Aziz Habib	Chief Executive	+92 21-32271985	1709, 17th Floor, Saima Trade Tower "A", I.I. Chundrigar Road, Karachi	aziz@dawoodequities.com
Adam Securities Limited	Noman	Director	+92 21-32444315	Room No. 806-814, 8th Floor, Main Pakistan Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi	noman@adamsecurities.com.pk
Banker to the Issue					
Meezan Bank Limited	Mirza Ayub Baig	SVP-Capital Markets / SBR Reporting Unit	+92-21-36406097	Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi	ayub.baig@meezanbank.com

Website: This offer letter can be downloaded from:

www.imagepakistan.net/right-shares/

<https://www.psx.com.pk>



M. ABDUL KALEEM STAMP VENDOR
 LICENCE # 16,
 Plot No: 217, Shop No: 02, Near 100 Bed
 Hospital Steel Town Karachi

17 NOV 2023

RUPEES ONE HUNDRED

SR. NO. 70559 DATE
 ISSUED TO WITH ADDRESS MR.
 THROUGH WITH ADDRESS MR. M. SHAHID QURESHI
 PURPOSE Advocate
 VALUE RS. ATTACHED Ledger # 15129-SR
 STAMP VENDOR'S SIGNATURE

UNDERTAKING BY THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

We, Asad Ahmad, The Chief Executive Officer and Muhammad Zameer, The Chief Financial Officer of Image Pakistan Limited certify that;

- i) The Offer Document contains all information with regard to the Issuer and the issue, which is material in the context of the issue and nothing has been concealed in this respect;
- ii) The information contained in the Offer Document is true and correct to the best of our knowledge and belief;
- iii) The opinions and intentions expressed therein are honestly held;
- iv) There are no other facts, the omission of which makes the Offer Document as a whole or any part thereof misleading; and
- v) All requirements of The Companies Act, 2017, The Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, The Central Depository Company and that of PSX pertaining to the Right Issue have been fulfilled.

For and on behalf of Image Pakistan Limited

Asad Ahmad

ASAD AHMAD
 Chief Executive Officer

Muhammad Zameer

MUHAMMAD ZAMEER
 Chief Financial Officer

Dated: March 1, 2024



MR. ABDUL KALEEM STAMP VENDOR
LICENCE # 16,
Plot No: 217, Shop No: 02, Near 100 Bee
Hospital Street Town Karachi

17 NOV 2023

RUPEES ONE HUNDRED

SR. NO. 7059
ISSUED TO WITH ADDRESS MR. M. SHAHID QURESHI
THROUGH WITH ADDRESS MR. Advocate
PURPOSE
VALUE RS. ATTACHED Ledger # 1129-SB
VENDOR'S SIGNATURE

UNDERTAKING BY THE BOARD OF DIRECTORS (BOARD)

We, The Board of Directors of Image Pakistan Limited hereby confirm that:

- (i) All material information as required under The Companies Act, 2017, The Securities Act, 2015, Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, The Listing of Companies and Securities Regulations of The Pakistan Stock Exchange Limited has been disclosed in this Offer Document and that whatever is stated in Offer Document and in the supporting documents is true and correct to the best of our knowledge and belief and that nothing has been concealed.
- (ii) We undertake that all material information, including risks that would enable the investor to make an informed decision, has been disclosed in the Offer Document.
- (iii) Right Issue is the discretion of Board of the Issuer and it neither require approval of the Commission nor the Securities Exchange.
- (iv) The Draft Offer Document was placed on the website of the Securities Exchange and the Issuer on 25-01-2024 (i.e. within 45 days of the date of announcement by the Board).
- (v) Comments from Securities Exchange and the SECP were received on 23-02-2024
- (vi) The Board has ensured that Draft Offer Document is updated in light of the Securities Exchange and SECP comments.
- (vii) The Board has disclosed on PSX's and Company's website, all the comments received along with the explanations as to how they are addressed.
- (viii) The Final Offer Document was placed on Securities Exchange website on 01-03-2024 along with the book closure dates and relevant right issuance timelines. (i.e. within 20 working days from the date of receipt of comments of PSX & SECP).
- (ix) The Statutory Auditor M/s. Feroze Sharif Tariq & Co., Chartered Accountants, will monitor the proceed utilization.

Asad Ahmad

Asad Ahmad

Farnaz Ahmad

Farnaz Ahmad

Uzma Ahmad

Uzma Ahmad

Mariam Ahmad

Mariam Ahmad

Jawed Ahmed Siddiqui

Jawed Ahmed Siddiqui

Syed Hussam Ashraf Subzwari

Syed Hussam Ashraf Subzwari

Muhammad Ziyad Akhtar Syed

Muhammad Ziyad Akhtar Syed

DISCLAIMER:

- i. In line with Companies Act, 2017 and Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, this document does not require approval of the Securities Exchange and the Securities Exchange Commission of Pakistan (SECP).
- ii. The Securities Exchange and the SECP disclaims:
 - a. Any liability whatsoever for any loss however arising from or in reliance upon this document to anyone, arising from any reason, including, but not limited to, inaccuracies, incompleteness and / or mistakes, for decisions and / or actions taken, based on this document.
 - b. Any responsibility for the financial soundness of the Company and any of its schemes / projects stated herein or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed with regards to them by the Company in this Offer document.
 - c. Any responsibility w.r.t quality of the issue.
- iii. It is clarified that information in this Offer document should not be construed as advice on any particular matter by the SECP and the Securities Exchange and must not be treated as a substitute for specific advice.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS AND DEFINITIONS

Banker to the Issue	Any bank with whom an account is opened and maintained by the Issuer for keeping the issue amount. Meezan Bank Limited has been appointed, in this Right Issue, as the Banker to the Issue.
CDC	Central Depository Company of Pakistan Limited
CDS	Central Depository System
Company / Image / Issuer	Image Pakistan Limited
Companies Act	Companies Act, 2017
Commission / SECP	Securities & Exchange Commission of Pakistan
Ordinary Shares	Ordinary Shares of the Company having a face value of PKR 10/- each.
PSX	Pakistan Stock Exchange Limited
PKR / Pak Rupees	Pakistani Rupees
Regulations	Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020
Right Issue / Issue	98,729,850 Right Shares representing 75% of total paid-up capital of the Company.
Right Shares	Shares offered by a company to its members strictly in proportion to the shares already held in respective kinds and classes.
Sponsors	A person who has contributed initial capital in the issuing company or has the right to appoint majority of the directors on the board of the issuing company directly or indirectly; A person who replaces the person referred to above; and A person or group of persons who has control of the issuing company whether directly or indirectly.

Table of Contents

1	SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE	8
1.1.	BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE.....	8
1.2.	PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS	10
1.3.	FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE	10
1.4.	TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE	11
1.5.	DETAILS OF UNDERWRITERS	11
1.6.	COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS:	11
1.7.	FRACTIONAL SHARES.....	12
1.8.	IMPORTANT DATES	12
2	SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE	13
3	PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS	14
3.1.	PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY	14
3.2.	DIRECTORS DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES.....	15
4	FINANCIAL DETAILS OF THE ISSUER.....	16
4.1.	FINANCIAL HIGHLIGHTS OF THE ISSUER FOR THE LAST THREE YEARS	16
4.2.	FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS.....	16
4.3.	DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS	16
4.4.	AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS	17
4.4.	SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS	17
5	RISK FACTORS.....	18
5.1.	RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE	18
5.2.	RISK ASSOCIATED WITH ISSUER	18
6	LEGAL PROCEEDINGS	21
6.1.	OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY	21
6.2.	ACTION TAKEN BY THE SECURITIES EXCHANGE AGAINST THE ISSUER OR ASSOCIATED LISTED COMPANIES OF THE ISSUER DURING THE LAST THREE YEARS DUE TO NONCOMPLIANCE OF THE ITS REGULATIONS	21
6.3.	ANY OUTSTANDING LEGAL PROCEEDING OTHER THAN THE NORMAL COURSE OF BUSINESS INVOLVING THE ISSUER, ITS SPONSORS, SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND ASSOCIATED COMPANIES, OVER WHICH THE ISSUER HAS CONTROL, THAT COULD HAVE MATERIAL IMPACT ON THE ISSUE	21
7	SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT.....	22
8	Annexure A.....	23

1 SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE

1.1. BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE

a)	Description of Issue:	Issuance of Right Shares to existing shareholders
b)	Size of the proposed Issue:	PKR 987,298,500/- is being raised via issuance of 98,729,850 ordinary shares at an issue price of PKR 10/- per share.
c)	Face Value of the share:	PKR 10/-
d)	Basis of determination of price of the right issue:	The Board of Directors of the company decided the price of Right Issue is reasonable, considering various factors including current market value of the Company's shares and break-up value per share ¹ .
e)	Proportion of new issue to existing shares with any condition applicable there to:	75 right shares for every 100 ordinary shares held i.e. 75% of the existing paid-up capital of the company.
f)	Date of meeting of Board of Directors (BoD) wherein the right issue was approved:	Friday, January 19, 2024
g)	Name of directors attending the Board Meeting:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Asad Ahmad 2. Ms. Farnaz Ahmad 3. Ms. Uzma Ahmad 4. Ms. Mariam Ahmad 5. Mr. Jawed Ahmed Siddiqui 6. Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari 7. Mr. M. Ziyad Akhtar Syed

¹ Last six months' average share price is PKR 14.14 per share (From July 1, 2023 to December 31, 2023)

h)	Brief purpose of utilization of right issue proceeds:	The purpose of the Right Issue is to finance the expansion of existing production capacity and Company's working capital requirements, which is essential for sustained business growth. This aligns with the Company's broader strategy to fortify its financial position in order to enhance profitability and, consequently, provide greater shareholders return.
i)	Purpose of the Right Issue - Details of the main objects for raising funds through present right issue:	The Company intends to issue rights to raise funds for purchase of land, expansion of existing production capacity through installation of new Multihead machines so as to reduce reliance on outsourcing embroidery for manufacturing quality product and cost saving, opening of more new outlets in different cities and to meet the working capital requirements and reducing Diminishing Musharika finance. Thus, to increase Company's profitability. Detail of which is given below:
j)	Minimum level of subscription (MLS):	None.
k)	"Application Supported by Blocked amount" (ASBA) facility, if any, will be provided for subscription of right shares	Not Applicable.

1.2 PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS:

A	Details of the principal purpose of the Right Issue																		
	<p>The Company intends to issue rights to meet the capital requirements of the Company to effectively implement its BMR & Expansion plan with the objective to increase the company's profitability. The item-wise break-up is given below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Purpose of the Issue</th> <th>Amount (PKR)</th> <th>% of Right Issue Proceeds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Working Capital</td> <td>397,298,500</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Multihead Machines</td> <td>120,000,000</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Purchase of Land*</td> <td>300,000,000</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>Reduction of Diminishing Musharika</td> <td>170,000,000</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>987,298,500</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Suitable land will be purchased at S.I.T.E., Karachi and the valuation shall be carried out by PBA approved valuer.</p>		Purpose of the Issue	Amount (PKR)	% of Right Issue Proceeds	Working Capital	397,298,500	40%	Multihead Machines	120,000,000	12%	Purchase of Land*	300,000,000	31%	Reduction of Diminishing Musharika	170,000,000	17%	Total	987,298,500
Purpose of the Issue	Amount (PKR)	% of Right Issue Proceeds																	
Working Capital	397,298,500	40%																	
Multihead Machines	120,000,000	12%																	
Purchase of Land*	300,000,000	31%																	
Reduction of Diminishing Musharika	170,000,000	17%																	
Total	987,298,500	100%																	
B	Additional disclosure relating to purpose of the Right Issue																		
	<p>Activities that are classified as working capital</p>	<p>The following are the broad activities that are classified as working capital, based on the Company's business / operations and requirements from time to time:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procurement of raw and packing materials including Inventory and Vendors / Customers payables</td> <td>300,000,000</td> </tr> <tr> <td>Manufacturing Overheads</td> <td>97,298,500</td> </tr> </tbody> </table> <p>The working capital requirements are based on Company's historical data of operations, current inflation, market conditions, etc.</p>	Procurement of raw and packing materials including Inventory and Vendors / Customers payables	300,000,000	Manufacturing Overheads	97,298,500													
Procurement of raw and packing materials including Inventory and Vendors / Customers payables	300,000,000																		
Manufacturing Overheads	97,298,500																		

1.3 FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE

Description	Measurement Unit	Pre-Issue	Post-Issue
Authorized Capital	PKR	3,000,000,000	3,000,000,000
Paid-up Capital*	PKR	1,316,398,000	2,303,696,500
Number of Shares	Unit	131,639,800	230,369,650
Total Equity	PKR	2,562,590,200	3,549,888,700
Net Assets / Breakup value per share*	PKR	19.47	15.41
Gearing Ratio **	Percentage	7.79%	5.75%
Production Capacity	Multihead Machines	40	60
Market Share***	Percentage		

Foot Note:

* These numbers are taken from the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023. The break-up value is calculated as follows: Total Equity ÷ No. of Shares.

** Expected / Estimated: Net Debt (Total Borrowings – Cash & Bank Balances) ÷ Total Capital (Net Debt + Total Equity)

*** Expected / Estimated

1.4 TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE

Underwriting Commission	PKR	1%
Underwriter Take-up Commission	PKR	3%
Bankers to the Issue – Out of Pocket	PKR	100,000
CDC – Fresh Issue Fee	PKR	1,421,710
CDC – Annual Fees for Eligible Security (Listing Fee)	PKR	1,000,000
PSX Fee (0.2% of increase in paid-up capital)	PKR	1,974,597
SECP Supervisory Fee (10% of fees paid to PSX)	PKR	197,460
Auditor Fee for Auditor Certificates	PKR	100,000
Stamp duty on issuance of additional shares	PKR	Up to PKR 9,872,985
Printing costs	PKR	Up to PKR 500,000
Lawyers and consultation fees	PKR	1,500,000

1.5 DETAILS OF UNDERWRITERS

Name of the Underwriter	Amount Underwritten	Associated Company / Associated Undertaking of the Issuer
M. Munir M. A. Khanani Securities Limited	PKR 250,260,960/-	No
MRA Securities Limited	PKR 150,000,000/-	No
Intermarket Securities Ltd.	PKR 150,000,000/-	No
Dawood Equities Limited	PKR 100,000,000/-	No
Adam Securities Limited	PKR 18,000,000/-	No

1.6 COMMITMENTS FROM DIRECTORS:

Name of the person	Status (Substantial Shareholder / Director)	Number of Shares Committed to be subscribed ²	Amount Committed to be Subscribed	Shareholding (post issuance) ³ %
Mr. Asad Ahmad	Chief Executive	16,976,476	169,764,760	17.20
Ms. Farnaz Ahmad	Director	7,078,802	70,788,020	7.17
Ms. Uzma Ahmad	Director	1,778,219	1,778,219	1.80
Ms. Marium Ahmad	Director	6,066,665	60,666,650	6.14
Mr. Jawed Ahmed Siddiqui	Director	996	9,960	0.002
Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari	Director	1,734	17,340	0.001
Mr. M. Ziyad Akhtar Syed	Director	862	8,620	0.001

² These may be subscribed to through persons arranged by the said directors as permitted under the Regulations.

³ Subject to actual subscription of right entitlements (as stated above, the same may be subscribed by persons arranged by individuals) and / or subscription of additional shares.

1.7 FRACTIONAL SHARES

The Board of Directors of the Company have resolved in their meeting held on January 19, 2024 that all fractional entitlements, if any, will be consolidated in the name of the Company Secretary (under trust), and unpaid letters of right in respect thereof shall be sold on the PSX, the net proceeds from which sale, once realized, shall be distributed / paid to the entitled shareholders in proportion to their respective entitlements as per the Regulations.

1.8 IMPORTANT DATES

IMAGE PAKISTAN LIMITED Tentative Schedule for Issuance of Letter of Rights Book Closure: From March 8, 2024 to March 15, 2024 (both days inclusive)			
Sr. No.	Procedure	Day	Date
a)	Date of credit of unpaid Rights into CDC in Book Entry Form	Monday	18.03.2024
b)	Dispatch of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Thursday	21.03.2024
c)	Intimation to PSX Dispatch / Credit of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Friday	22.03.2024
d)	Commencement of trading of unpaid Rights on the Karachi Stock Exchange Limited	Monday	25.03.2024
e)	Last date for splitting and deposit of Requests into CDS	Wednesday	03.04.2024
f)	Last date of trading of Rights Letter	Tuesday	16.04.2024
g)	Last date for acceptance and payment of shares in CDC and physical form - Last payment date	Tuesday	23.04.2024
h)	Allotment of shares and credit of book entry of Shares into CDC	Monday	13.05.2024
i)	Date of dispatch of physical shares certificates	Wednesday	22.05.2024

2 SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE

- a) Payment as indicated above should be made by cash or crossed cheque or demand draft or pay order made out to the credit of “Image Pakistan Limited - Right Shares Subscription Account” through any of the authorized branches of above-mentioned bank(s) on or before April 23, 2024 along with this Right Subscription Request duly filled in and signed by the subscriber(s).
- b) Right Subscription Request can be downloaded from the Company’s website www.imagepakistan.net/right-shares.
- c) In case of Non-Resident Pakistani / Foreign shareholder, the demand draft of equivalent amount in Pak Rupees should be sent to the Company Secretary, Image Pakistan Limited at the registered office of the Issuer along with Right Subscription Request (both copies) duly filed and signed by the subscriber(s) with certified copy of NICOP / Passport well before the last date of payment.
- d) All cheques and drafts must be drawn on a bank situated in the same city where Right Subscription Request is deposited. Cheque is subject to realization.
- e) The Bankers to the Issue will not accept Right Subscription Request delivered by post which may reach after the closure of business on April 23, 2024, unless evidence is available that these have been posted before the last date of payment.
- f) Payment of the amount indicated above to the Issuer’s Banker(s) to the Issue on or before on April 23, 2024, shall be treated as acceptance of the Right offer.
- g) After payment has been received by the Company’s Banker(s) to the Issue, the Right Securities will be credited into respective CDS Accounts within 14 business days from the last payment date. Paid Right Subscription Request will not be traded or transferred.
- h) Online Payment option for IAS Account Holders / Sub Account Holders:

CDC has introduced online payment facility through 1link for Right Subscription. The investor account holders can now make online payment for their respective rights subscribed against 1Bill payment ID printed on the top right of the subscription request (generated by CDS) through all the available online banking channels of 1link’s member banks (such as internet banking, Automated Teller Machine (ATM) and Mobile Banking).

3 PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

BOARD OF DIRECTORS		
Name	Position	Date of Appointment
Mr. Asad Ahmad	Chief Executive	24-12-2021
Ms. Farnaz Ahmad	Non-Executive Director	24-12-2021
Ms. Uzma Ahmad	Non-Executive Director	24-12-2021
Ms. Marium Ahmad	Non-Executive Director	24-12-2021
Mr. Jawed Ahmed Siddiqui	Executive Director	24-12-2021
Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari	Independent Director	24-12-2021
Mr. M. Ziyad Akhtar Syed	Independent Director	06-05-2022

3.1. PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Mr. Asad Ahmad – Chief Executive

Asad Ahmad a prominent businessman with a diverse experience of over 35 years in manufacturing, export, import, trade and finance is the Chief Executive Officer (CEO) of the Company. He holds a master's degree in business administration from the Institute of Business Administration (IBA), Karachi. Mr. Ahmad's family is involved in business since more than 200 years initially doing trading in India and migrated to Pakistan in 1948 and subsequently entered the manufacturing field 70 years ago. He is the key player in the transformation of the company, a team leader and a visionary having in depth knowledge of the overall industry and the sector. He is on the board of Directors of 4 listed companies by virtue of his position is well versed with the corporate sector and effective in the implementation and management of the code of corporate governance at the Company.

Ms. Farnaz Ahmad – Non-Executive Director

Farnaz Ahmad a graduate in Business Administration from the Institute of Business Administration (IBA), Karachi. She along with her husband Asad Ahmad was the founder and launched the brand Image in 1993. She comes from a business family involved in the manufacturing and marketing of consumer goods since last 70 years. She is responsible for creative design development, supply chain and outlet management.

Ms. Uzma Ahmad – Non-Executive Director

Uzma Ahmad completed her BSc in Economics from the University of Warwick and then did her MSc in Law & Accounting at the London School of Economics & Political Science. Uzma identified an opportunity for retail business followed by diversification into ready-to-wear clothing for women by using efficient manufacturing systems in order to offer competitively priced garments to the local market. On her initiative in 2016 Image started growing their store network in Karachi & Lahore as a high street retail fashion label and now has a presence in 14 brick & mortar stores across 6 cities of Pakistan.

Ms. Mariam Ahmad – Non-Executive Director

Mariam Ahmad is a graduate with BSc in Mathematics & Business from the University of Warwick, UK and had worked as an Actuarial Consultant for Willis Towers Watson in London for a couple of years before returning to her home country. She has successfully established a strong e-commerce platform for the brand and an in-house marketing team for faster promotions and sale conversions in the current digital age.

Mr. Jawed Ahmed Siddiqui – Executive Director

Jawed Ahmed Siddiqui is an engineer B.E. Mechanical by qualification having 39 years of experience in the industry. He is one of the founder Directors of the Company.

Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari – Independent Director

S. Hussam Ashraf Subzwari is a graduate in Business Administration from MAJU, Karachi. He retired from HBL in February, 2020 and have more than 35 years of experience in Project Financing, Credit and Risk Management.

Mr. M. Ziyad Akhtar Syed – Independent Director

M. Ziyad Akhtar Syed worked as a General Manager in Sui Southern Gas Company Limited (SSGC). He retired from SSGC in 2020.

3.2. DIRECTORS' DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES

<p>Mr. Asad Ahmad Chief Executive 21 DMCHS, Block 7/8, Tipu Sultan Road, Karachi</p>	<p>A.R.T. Modaraba Management (Pvt) Limited Image International Limited Image Tech Limited Indus Battery Industries (Pvt) Limited Prestige Enterprises (Pvt) Limited Sinolink Properties (Pvt) Limited Sinolink REIT Management Co. Limited Tri-Star Energy Limited Tri-Star Foundation Tri-Star Image (USA) Inc. Tri-Star Investments Limited Tri-Star Leasing Limited Tri-Star Mutual Fund Limited Tri-Star Power Limited</p>
<p>Ms. Farnaz Ahmad Non-Executive Director 21 DMCHS, Block 7/8, Tipu Sultan Road, Karachi</p>	<p>Indus Battery Industries (Pvt) Limited Sinolink Properties (Pvt) Limited</p>
<p>Ms. Uzma Ahmad Non-Executive Director 21 DMCHS, Block 7/8, Tipu Sultan Road, Karachi</p>	<p>Image International Limited Image Tech Limited Tri-Star Image (USA) Inc. Tri-Star Power Limited Tri-Star Foundation UMF (Pvt) Limited</p>
<p>Ms. Marium Ahmad Non-Executive Director 21 DMCHS, Block 7/8, Tipu Sultan Road, Karachi</p>	<p>Image International Limited Image Tech Limited Sinolink REIT Management Co. Limited Tri-Star Energy Limited Tri-Star Image (USA) Inc. Tri-Star Leasing Limited Tri-Star Mutual Fund Limited UMF (Pvt) Limited</p>
<p>Mr. Jawed Ahmed Siddiqui Executive Director 43/2, Main Khayaban-e-Sahar, Phase – 6, Street 13, DHA, Karachi</p>	<p>Tri-Star Power Limited Tri-Star Mutual Fund Limited</p>
<p>Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari Independent Director C-81/1, Block-I, North Nazimabad, Karachi</p>	<p>None</p>
<p>Mr. M. Ziyad Akhtar Syed Independent Director 12-A/1, Central Avenue, Phase – II, DHA, Karachi</p>	<p>New Energy (SMC-Private) Limited</p>

4 FINANCIAL DETAILS OF THE ISSUER

4.1 FINANCIAL HIGHLIGHTS OF ISSUER FOR LAST THREE YEARS

Description		FY 2022-2023	FY 2021-2022	FY 2020-2021
Name of Statutory Auditor		M/s. Feroze Sharif Tariq & Co.		
Gross Revenue / Sales	PKR	2,329,436,354	1,534,814,429	1,133,338,549
Gross Profit	PKR	848,131,580	703,940,425	442,043,924
Operating Profit	PKR	303,068,009	211,095,317	199,198,987
Profit after Tax	PKR	207,801,429	174,044,997	115,099,317
Accumulated Profit	PKR	128,862,856	232,603,180	104,485,282
Total Assets	PKR	3,453,575,632	2,477,634,413	2,070,759,234
Total Liabilities	PKR	1,008,755,797	651,456,177	851,737,478
Net Equity	PKR	2,444,819,835	1,826,178,236	1,219,021,756
Break-up value per share	PKR	18.57	18.35	21.43
Earnings per share	PKR	1.91	2.06	2.02
Dividend Announced	PKR	197,459,700	-	56,879,201
Bonus Issued	PKR	171,704,088	149,307,900	-

4.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Name of Statutory Auditor		M/s. Feroze Sharif Tariq & Co.
Name of companies for which consolidated financial statements are prepared		Image Tech Limited Image International Limited Tri-Star Image (USA) Inc.
Gross Revenue / Sales	PKR	3,026,989,986
Gross Profit	PKR	1,042,202,753
Operating Profit	PKR	384,719,616
Profit after Tax	PKR	288,637,106
Accumulated Profit / (Loss)	PKR	246,532,057
Total Assets	PKR	3,618,879,008
Total Liabilities	PKR	1,056,288,808
Net Equity	PKR	2,562,590,200
Break-up Value per Share	PKR	19.47
(Loss) per Share	PKR	-
Dividend Announced	PKR	197,459,700
Bonus Issued	PKR	171,704,088

4.3 DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS

Right Issue	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019
Percentage	-	75%	-	-	-
Number of Shares	-	42,659,401	-	-	-
Amount Raised (PKR)	-	598,342,185	-	-	-
Unsubscribed portion (PKR)	-	41,548,830	-	-	-
Unsubscribed portion allotted by BoD (PKR)	-	41,548,830	-	-	-
Unsubscribed portion taken up by the Underwriter	-	-	-	-	-
Proceed utilization break up	-	100%	-	-	-

4.4 AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS

Average market price of the share of the Company during the last six months (from July, 2023 to December, 2023) is PKR 14.14 per share.

4.5 SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS

Pattern of Shareholding of the Issuer

Shareholders	Shares Held	(%)
Directors, Chief Executive Officer, their Spouse(s) and Minor Children		
Mr. Asad Ahmad	22,635,302	17.20
Ms. Farnaz Ahmad	9,438,403	7.17
Ms. Uzma Ahmad	2,370,959	1.81
Ms. Marium Ahmad	8,088,887	6.14
Mr. Jawed Ahmed Siddiqui	1,329	0.001
Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari	2,313	0.001
Mr. M. Ziyad Akhtar Syed	1,150	0.001
Associated Companies, undertakings and related parties		
First Tri-Star Modaraba	1,100	0.001
Prestige Enterprises (Pvt) Ltd.	80,870	0.061
Tri-Star Investments Ltd.	141,824	0.108
NIT & ICP	38,487	0.03
Banks, Development Financial Institutions, Non-Banking Financial Institutions	186,150	0.14
Insurance & Leasing Companies	444,506	0.34
Modaraba and Mutual Funds	4,892,400	3.72
Investment Companies	60,117	0.05
General Public (local)	72,151,999	54.81
Other Companies	10,557,136	8.02
Joint Stock Companies	546,868	0.42
Total	131,639,800	100%

Shares held by Directors of the Issuer (both Existing and Post Right Issue)

Shares held by	Existing Shareholding	%	Post Right Shareholding ⁴	%
Directors				
Mr. Asad Ahmad	22,635,302	17.20	39,611,778	17.20
Ms. Farnaz Ahmad	9,438,403	7.17	16,517,205	7.17
Ms. Uzma Ahmad	2,370,959	1.80	4,149,178	1.80
Ms. Marium Ahmad	8,088,887	6.14	14,155,552	6.14
Mr. Jawed Ahmed Siddiqui	1,329	0.001	2,325	0.001
Mr. S. Hussam Ashraf Subzwari	2,313	0.002	4,047	0.002
Mr. M. Ziyad Akhtar Syed	1,150	0.001	2,012	0.001

⁴ Subject to the actual number of shares subscribed during the Right Issue (note that directors and subscribers may arrange for others to subscribe to their entitlements; furthermore, such persons may subscribe to additional shares offered by the Board).

5 RISK FACTORS

5.1. RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE

Undersubscription Risk

There is a risk that the Right Issue may get undersubscribed due to lack of interest from shareholders of the Company. The Right Issue is being carried out at a price which is less than the current share price in the market and hence there is no major investment risk associated with the Right Issue. The substantial shareholder and directors of the Company have confirmed that they shall subscribe to (or arrange the subscription of) their respective right entitlements, while the balance portion of the Right Issue will be underwritten in accordance with the applicable laws.

This risk is of continuity of creating designs by the Company which are appreciated in the market by our customers otherwise there is no other major risk which the Company may face. This risk is mitigated by implementing staff retention incentives.

However, the Right Issue of the Company is being made at a price which is less than current share price in the market and hence there is no major investment risk associated with the Right Issue. The Directors / Shareholders have given undertaking for subscription (or arrangement of subscription) of their respective right entitlements. The balance portion of Right Issue is to be fully underwritten as per requirement of applicable regulations. Normal risks associated with the business will remain.

5.2. RISK ASSOCIATED WITH ISSUER

1. Internal Risk Factors

Operational Risk

Operational risk summarizes the uncertainties a business faces when it attempts to conduct its day-to-day business activities specifically in relation to plant operation. It can result from breakdowns in internal procedures, people and systems.

A high turnover ratio of skilled staff, disruption in the Company's supply chain or inappropriate planning could be a major determinant to operational risk for the Company.

The Company is mitigating operational risk by implementing staff retention initiatives, including training and competitive benefits, to address high turnover. Additionally, the Company is adopting a diversified supply chain planning process and implementing robust strategies to counter disruptions in the supply chain.

Procurement Risk

As a prominent player in the embroidery fabrics manufacturing industry, it is crucial to be cognizant of the inherent procurement risks associated with the business. The sector is particularly susceptible to raw material price fluctuations. Additionally, the volatility in currency exchange rates can impact the cost of raw materials. Our commitment to transparency involves acknowledging and mitigating these risks through proactive procurement strategies, supplier diversification and diligent monitoring of market dynamics.

Credit Risk

Credit risk represents the risk that one party to a financial instrument will cause to the other party by failing to discharge a financial obligation. The Company manages credit risk *inter alia* by setting credit limits in relation to individual customers and by selling on cash. Consequently, the Company believes that it is not exposed to any major concentration of credit risk.

Liquidity Risk

Liquidity risk is where an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities. The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and ensuring the fund availability through adequate credit facilities. Based on the above, the management believes the liquidity risk to be insignificant.

Risk of Non-compliance with Regulations of SECP and PSX

In the event of non-compliance with any regulatory requirements of SECP or PSX, the Company may be placed on the defaulter segment of PSX which may potentially hamper trading in the Company's shares, leading to potential suspension in trading of its shares as well as delisting.

To mitigate the risk of non-compliance with SECP and PSX regulations, the Company has established an internal compliance framework, engages legal counsel for ongoing guidance, continuously monitoring regulatory changes and maintaining open communication with regulatory bodies. These measures collectively aim to ensure adherence to regulatory requirements.

2. External Risk Factors

Business Risk

Business risk is the possibility of the Company reporting lower than anticipated profits or loss due to factors such as:

- Increase in input costs such as raw materials
- Increase in conversion / utility costs

The Company is actively following strategies to mitigate business risk, including supplier diversification, cost predictability through analytics and maintaining robust government relations.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in the market interest rates. When interest rates are high, borrowing costs increase, making it more expensive for the Company to finance its operations. This can lead to reduced business spending, lower economic growth, and decreased profitability. It also discourages business investment as financing new projects becomes more expensive.

The Company constantly monitors market interest rates and employs strategies to mitigate interest rate risk associated with short term borrowings on variable rates. In light of the same, the Company intends to utilize the proceeds from the Right Issue to finance its working capital requirements, including with the intention of reducing its reliance on short term borrowings. This approach aims to ensure cost effective financing and minimize the impact on business spending during period of high interest rates.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk represents the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. Foreign exchange risks arise mainly from future economic transactions or receivables and payables that exist due to transactions in foreign currencies. The Company is exposed to foreign exchange risk arising from currency value fluctuations, primarily with respect to the USD, Euro, CHF and JPY.

Economic Slowdown

Slow down and / or deterioration of macroeconomic conditions could trigger a reduction in disposable incomes, compelling consumers to postponing their purchase. The growth of any sector is affected by the economic conditions prevailing in the country. An economic slowdown may adversely affect the growth and performance of the Retail sector, as a whole. The prevalent economic scenario is on a downward spiral due to rising costs and inflation. However, to mitigate the potential impact of economic slowdown, the Company has implemented cost control measures and operational efficiencies to maintain financial resilience during challenging economic conditions.

Global Economic and Financial Market Risk

Due to ongoing geopolitical disruption causing high commodity prices, all major economies of the world including USA, UK and European countries are facing inflationary pressure. Some of the major global financial institutions are foreseeing signs of recession in major countries which may cause volatility in international financial markets. The ripple down effect may affect the Pakistani economy and financial markets adversely which could impact the overall macro condition of the Country with limited ability of the government to secure new debt from international markets, which in turn could affect the PKR / USD parity. To mitigate global economic and financial market risks, the Company intends to diversify its revenue streams across regions to enhance overall financial resilience in the face of geopolitical uncertainties and economic fluctuations.

Regulatory Risk

Regulatory risk pertains to the possibility of future changes in government policies and regulations which could potentially impact the various business segments the Company operates in. Modifications in the regulatory landscape, such as change in import tariffs which have the potential to notably impact the industry's overall performance. Additionally, any change in regulatory duties or taxes related to the import of raw materials or finished products could directly affect the Company's profitability and operational efficiency.

Risk of Substitutes

The textile industry is confronted with potential substitute risks that may affect the demand for end products. Price sensitivity, global competition, and advancements in the textile industry also contribute to the complexity of substitute risks. Our Company stays adaptable, invests in research and development including investment in plant & machinery and considers sustainable practices to effectively navigate these challenges, ensuring the maintenance of a competitive position in the market.

3. Additional Risk Factors

Capital Risk Management

The Company's objectives in managing capital is to ensure the Company's ability to continue as a going concern so that it can continue to provide returns to shareholders and benefits for other stakeholders while maintaining an optimal capital structure to reduce the cost of capital. The Company finances its operations through equity, borrowings and management of working capital with a view to maintaining an appropriate balance between the various sources of finance to minimize risk and cost. The Company is not exposed to any externally imposed capital requirement.

Profitability

The Company's after-tax profit for FY 2023 amounted to Rs. 208 million, compared to Rs. 174 million in FY 2022. The profitability may be impacted if there is a fall in demand of the products or due to the overall economic slowdown.

4. Company's Efforts to Mitigate Risk Factors

Although, there are other competitors in the market but the Company have already the advantage of holding niche market, the risk is greatly mitigated. Moreover, the sponsors of the company already have an experience of 30 years of manufacturing and marketing of embroidered fabric and the decision for growth is based on the experience.

The Directors / Shareholders have given their undertaking for subscription (or arrangement of subscription) of their respective right entitlements. The balance portion of Right Issue is to be fully underwritten as per requirement of applicable regulations. Hence, no major risk is involved.

NOTE: IT IS STATED THAT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF, ALL MATERIAL RISK FACTORS HAVE BEEN DISCLOSED AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT.

6 LEGAL PROCEEDINGS:

6.1. OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY

There is no material litigation, other than in the ordinary course of business, that would have an adverse effect on the Company. Moreover, these litigation matters have already been disclosed in the audited financial statements, brief of which is given below:

Legal Order dated	Issuing Authority	Tax Period, if any	Order Amount / Financial Impact (PKR Million)	Current Status	Management's Stance
19.04.2022	Sindh High Court	2016 to 2020	23.932	Pending	The Management has filed CP No. 2214 and 2215 of 2022 against Show Cause Notices issued by DC (Audit II) Inland Revenue. The Honourable Court has restrained the DC from passing the final order.

6.2. ACTION TAKEN BY THE SECURITIES EXCHANGE AGAINST THE ISSUER OR ASSOCIATED LISTED COMPANIES OF THE ISSUER DURING THE LAST THREE YEARS DUE TO NON-COMPLIANCE OF THE ITS REGULATIONS

None

6.3. ANY OUTSTANDING LEGAL PROCEEDING OTHER THAN THE NORMAL COURSE OF BUSINESS INVOLVING THE ISSUER, ITS SPONSORS, SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND ASSOCIATED COMPANIES, OVER WHICH THE ISSUER HAS CONTROL, THAT COULD HAVE MATERIAL IMPACT ON THE ISSUE

None

7 SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT




Asad Ahmad




Farraz Ahmad




Uzma Ahmad



Mariam Ahmad



Jawed Ahmed Siddiqui



Syed Hussam Ashraf Subzwari



Muhammad Ziyad Akhtar Syed

Extract of the Resolution passed by the Board of Directors of Image Pakistan Limited (the "Company") at its meeting held on January 19, 2024 at the Registered Office of the Company at Karachi.

Resolved that the ordinary Paid-up Capital of the Company be increased from Rs. 1,316,398,000/- to Rs. 2,303,696,500/- by issue of further 98,729,850 ordinary shares of the Company of Rs. 10/- each, to be offered to the shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each shareholder (i.e. as right issue) in accordance with the provisions of Section 83 of the Companies Act, 2017 and all applicable laws, at a price of Rs. 10/- per share, in the ratio of 75 right shares for every 100 existing ordinary shares, against payment to the Company of the price of the shares subscribed, which shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares of the Company (the "Right Issue").

Further Resolved that the following are the quantum, size, price and purpose of the Right Issue, along with the utilization of proceeds, benefits of the Right Issue of the Company and the shareholders of the Company, the risk factors associated with the Right Issue, and the justification for the issue of shares, in accordance with Regulation 3(1)(iii) of the Companies (Further issue of Shares) Regulations, 2020:

a) Quantum of the Right Issue:

The quantum of the Right Issue is 75% of the existing paid-up capital of the Company i.e. 75 right shares for every 100 ordinary shares held by the shareholders of the Company.

b) Right Issue Size:

The Company shall issue 98,729,850 ordinary shares at a price of Rs. 10/- per share, aggregating to Rs. 987,298,500/-.

c) Right Issue Price:

Rs. 10/- per share.

d) Purpose of the Right Issue:

The purpose of the Right Issue is to finance the expansion of existing production capacity and Company's working capital requirements, which is essential for sustained business growth. This aligns with the Company's broader strategy to fortify its financial position in order to enhance profitability and, consequently, provide greater shareholders return.

e) Utilization of Proceeds of the Right Issue:

The Company intends to issue rights to raise funds for expansion of existing production capacity through purchase of land, installation of new Multihead machines so as to reduce reliance on outsourcing embroidery for manufacturing quality product and cost saving, opening of more new outlets in different cities and to meet the working capital requirements and reducing Diminishing Musharika finance. Thus, to increase Company's profitability.

f) Benefits to the Company and Shareholders:

The subscription amount from the Right Issue will enable the Company to implement its capacity expansion plans and to make available the required liquidity for meeting its working capital requirements. Effective implementation of the BMR & Expansion plan is expected to positively impact the profitability of the Company, which in consequence would benefit its shareholders.

g) Risk Factors associated with the Right Issue:

The Right Issue of the Company is being made at a price which is less than current share price in the market and hence there is no major investment risk associated with the Right Issue. The Directors / Shareholders have given undertaking for subscription (or arrangement of subscription) of their respective right entitlements. The balance portion of Right Issue is to be fully underwritten as per requirement of applicable regulations. Normal risks associated with the business will remain.

Further Resolved that the letter of offer may be issued / signed by any two directors of the Company in compliance with the applicable laws.

Further Resolved that all fractional entitlements, if any, will be consolidated in the name of the Company Secretary (under trust), and unpaid letters of right in respect thereof shall be sold on the Pakistan Stock Exchange Limited (“PSX”), the net proceeds from which sale, once realized, shall be distributed / paid to the entitled shareholders in proportion to their respective entitlements as per the Regulations.

Further Resolved that any unsubscribed shares may be offered and allotted (upon subscription) to such persons as the directors may deem fit in accordance with Section 83(1)(a)(iv) of the Companies Act, including the sponsors / substantial shareholders, directors or associated undertakings of the Company or any third party, before calling upon the underwriters to subscribe to any unsubscribed shares.

Further Resolved that the Chief Executive and / or Company Secretary and / or the Chief Financial Officer, be and are hereby severally authorized to prepare, revise and finalize the draft offer document / letter and share it with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”) and PSX, and revise the same based on the observations and changes of the SECP and PSX as may be deemed fit by them, in the manner prescribed under the Regulations, along with preparing and submitting other necessary documents in this respect. While the draft offer letter shall be placed on the PSX website, public comments on the same shall not be required to be solicited.

Further Resolved that Mr. Asad Ahmad, Chief Executive and Mr. Haroon Saeed, Company Secretary be and are hereby singly authorized to do the following on behalf of the Company:

- (i) To appoint / negotiate with consultants / advisors / auditors and underwriter(s) to the Right Issue, to finalize terms and conditions and sign underwriting agreement(s), other documents and settle / finalize fees, underwriting commission, take-up commission and third-party expenses and / or any other expenses relating to the Right Issue;
- (ii) To prepare the schedule for issue of right shares including date of payment, and to make any amendment in the said schedule, appointment of banker(s) to the issue, announce book closure dates, and to take all necessary actions, in respect of the Right Issue and ancillary matters thereto, as required by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) / Pakistan Stock Exchange (PSX) / Central Depository Company of Pakistan (CDC) (including, but not limited to, induction of the offer for right shares in the Central Depository System of the CDC) or any other authority;
- (iii) to decide and announce the closure of the share transfer books of the Company, including the dates thereof, to determine entitlements of the shareholders of the Company with respect to the Right Issue;
- (iv) To open, maintain, operate and close bank accounts for the purpose of amounts received from subscription of shares;
- (v) To allot / credit right shares and file returns as required by SECP / PSX / CDC along with the auditors’ certificate; and

- (vi) To take all other necessary steps, and to do all other acts, deeds and things, sign circular to accompany the letter of offer, pursuant to Section 83(3) of the Companies Act, 2017 and to prepare the offer letter, schedule for issue of right shares and any other documents and to make any amendment in the said documents and schedule and to take all necessary action as may be required in this regard including execution of any documents and agreements or any ancillary or incidental actions to give effect to the above resolutions.

Certified that the above mentioned is a true and valid extract from the meeting of the Board of Directors of Image Pakistan Limited held at Karachi on January 19, 2024.



M. Haroon Saeed
Company Secretary

January 24, 2024

Statement in Fulfilment of Requirements Contained Under Regulation 3(3)(vi) Of

The Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020

In relation to Comments Received from
 Securities & Exchange Commission of Pakistan
 Vide its Letter Dated February 23, 2024
 On the Draft Circular under Section 83(1) of the Companies Act, 2017
 And the Changes made to the Circular Based on the Given Comments

Sr. No.	Name of the Person	Comment Received	Whether the Company agree / disagree to the comment	Proposed change, if agreed	Rationale
1.		Cover Page			
i.	Securities & Exchange Commission of Pakistan	Date of final offer letter, book closure, subscription amount payment, and letter of rights to be added in the final document	Agreed	Added	Dates inserted
ii.		Insert the full link to download the offer letter	Agreed	Added	Full link to download the offer letter inserted
iii.		Address inconsistency regarding name of the 'banker to the issue' as stated on the cover page (Page 4) and in the "Glossary of Technical Terms and Definitions" (Page 7)	Agreed	Corrected	Meezan Bank Limited has been appointed as 'banker to the issue'.
2.		Undertaking by the CEO and CFO			
		Undertaking shall be signed by the respective signatories in the final document	Agreed	Inserted	Signed undertaking has been added
3.		Undertaking by the Board of Directors			
i.		Clause viii of undertaking of Schedule I shall be added in undertaking by the Board of Directors (Board) in final Offer Document (OD)	Agreed	Added	Refer to Clause vii of the undertaking by the Board of Directors
ii.		Existing clause viii of undertaking by the Board in offer document shall be amended by deleting this line, " <i>if the issuance proceeds exceed Rs.750 million or 50% of the paid-up capital of the listed company issuing right shares, whichever is higher</i> "	Agreed	Line deleted	Refer to Clause ix of the undertaking by the Board of Directors

iii.		Undertaking shall be signed by the respective signatories in the final OD	Agreed	Inserted	Signed undertaking has been added
4.		Glossary of technical terms and definitions			
i.		Rectify the name of the Regulations as “Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020”	Agreed	Details added	Refer to Glossary of Technical Terms
ii.		In the table “Regulations” shall be defined as “Companies (Further Issue of Shares Regulations), 2020	Agreed	Amended	Refer to Glossary of Technical Terms
5.		Salient Features of the Right Issue in draft Offering Document			
i.		In Section 1.1, for ‘Brief purpose of utilization of right issue proceeds:’ at point ‘h’, provide all purposes of utilization of right proceeds i.e. expansion of existing production capacity through purchase of land and installation of new Multi-head machines; meet working capital requirements; and reducing Diminishing Musharika finance. For ‘purpose of the right issue – Details of the main objects for raising funds through present right issue’ at point ‘i’, main objects for raising the funds may be provided i.e. reduce reliance on outsourcing embroidery for manufacturing quality product, cost savings, opening of more new outlets in different cities, increase company’s profitability.	Agreed	Changes made	Done
ii.		Section 1.2(A) Details of the principal purpose of the Right Issue: provide the item- wise breakup of the proceeds to be utilized for different items mentioned in section 1.1(i).	Agreed	Detail Added	Amount of proceeds disclosed in tabular form
iii.		Section 1.2(B) Additional disclosure relating to purpose of the Right Issue: comply with disclosure requirements as per 7(ii)(B) of Schedule I of the Regulations.	Agreed	Details Added	Amount of proceeds disclosed in tabular form

iv		<p>Section 1.3 Financial effects arising from right issue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Add production capacity, and also provide market share if available, in the table. • Disclose the calculation of pre and post issue breakup value in the footnotes. • Disclose the calculation of pre and post issue gearing ratio in the footnotes. 	Agreed	Details Added	Done
v.		Section 1.4 Total expense to the Issue, underwriting commission should be disclosed in final OD	Agreed	Added	Underwriting commission percentage mentioned
vi.		Section 1.5, Details of Underwriters: Amount underwritten shall be disclosed in the OD.	Agreed	Added	Amount underwritten by each of the underwrites disclosed.
vii.		Section 1.8 Important Dates: Day and date should be disclosed for each procedure in in the final OD	Agreed	Added	Details have been added
6.		Subscription Amount Payment Procedure			
		Under point (a), insert the full link to download Right Subscription Request Form.	Agreed	Added	Details have been added
7.		Financial Details of the Issuer			

		<p>i. Section 4.1, Financial highlights of issuer for last three years:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disclose financial highlights of issuer for last three years based on unconsolidated financial statements as per the format given in para 10 of Schedule I of the Regulations. • Disclose name of the statutory auditor. • Disclose break-up value per share. • Disclose financial highlights for preceding one year based on consolidated financial statements as per para 10(ii) of Schedule I of the Regulations. <p>ii. Section 4.2 Details of issue of capital in previous five years: Align the format of tables given in para 10(iii) of the Schedule I of the Regulations.</p> <p>iii. Section 4.4 Pattern of shareholding of the Issuer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difference in shareholding of Ms. Farnaz Ahmad and Ms. Mariam Ahmad in the table titled "Pattern of shareholding of the Issuer" and the table titled "Shares held by Directors of the Issuer" should be reconciled. • In the table titled "Shares held by Directors of the Issuer" increase the post issue number of shares to accurately reflect subscription by the directors. 	<p>Agreed</p>	<p>Added</p>	<p>Details have been added</p>
--	--	--	---------------	--------------	--------------------------------

8.		Risk Factors			
		<ul style="list-style-type: none"> All the risks mentioned are very generic, risk factors should be drafted in terms of how these risks may impact the Company and the Right Issue. Disclose the measures to address these risks, if any. Additional Risk Factors - Profitability Risk: the profitability figures should be corrected as the disclosed figures are different from the financial statements. 	Agreed	Relevant details added	<p>Specific risk defined and risk mitigants added.</p> <p>Profitability figures rectified.</p>
9.		Legal Proceedings			
		i. Disclose the legal proceedings against the Company in the format given in para 12(iii) of Schedule I of the Regulations.	Agreed	Details added	Notwithstanding that all of the Company's legal proceedings are in the ordinary course of business and have already been disclosed in the audited accounts of the Company, details of certain legal proceedings have been added.
10.		Signatories to the offer document			
		i. Final offer documents shall be signed by all the relevant signatories.	Agreed	Details added	Signed

سرمایہ کاروں کے لئے مشورہ

ایکوئیٹی اور اس سے متعلقہ سکیورٹیز میں سرمایہ کاری میں چند خطرات موجود ہوتے ہیں۔ سرمایہ کار سے التماس ہے کہ وہ اس پیشکش میں سرمایہ داری کرنے سے پہلے رائٹ شیئر آفر دستاویز (بعد ازاں جسے ”آفر ڈاکیومنٹ“ کہا گیا ہے) اور خطرے کے عوامل کا اچھی طرح مطالعہ کریں اور اپنی مالیاتی حالت اور خطرہ مول لینے کی استعداد کا جائزہ لیں۔

PSX میں رائٹ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے قابل ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے فوائد کے لئے صرف اور صرف سرمایہ داری ذمہ دار ہیں۔

ایمچ پاکستان لمیٹڈ کے 98,729,850 نئے عمومی حصص پر مشتمل 987,298,500 روپے کے رائٹ اجرا کی بابت کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور عوام الناس کو معلومات فراہم کرنے کے لئے یہ دستاویز جاری کیا گیا ہے۔

یہ آفر دستاویز 23 جون، 2024ء تک کارآمد ہے

EST. 1993
image

ایمچ پاکستان لمیٹڈ
رائٹ حصص - آفر ڈاکیومنٹ

تاریخ و مقام اندراج: 14 نومبر، 1990ء پاکستان

اندراج نمبر: 0022754

رجسٹرڈ آفس: F/538، سائیٹ، کراچی - 75700، سندھ

کارپوریٹ آفس: A/33، سنٹرل کمرشل ایریا، بلاک 7/8، مرکزی شاہراہ فیصل کراچی پاکستان

رابطہ نمبر: +92 - 21-32582613

ویب سائیٹ: www.imagepakistan.com

فرد رابطہ: محمد ہارون سعید فون نمبر: +92 - 21 - 32582613 ای میل: haroon@image.net.pk

کاروباری اوقات کار یعنی پیر سے جمعہ صبح 09:00 بجے سے شام 05:00 بجے تک رابطہ کیا جائے

اجراء کا سائز: رائٹ اجرا 98,729,850 حصص (یعنی ایمچ پاکستان لمیٹڈ کے موجودہ ادا شدہ سرمایے کا 75%) پر مشتمل

ہے جس کی فیس ویلیو -/10 روپے اور آفر پرائس -/10 روپے فی حصص ہے۔ رائٹ اجرا سے حاصل کی جانے والی کل

رقم -/987,298,500 روپے ہے۔

عوامی رائے کے لئے PSX پر آفر دستاویز رکھنے کی تاریخ: دستیاب نہیں (عوامی رائے طلب نہیں کی گئی ہے)

حتمی آفر لیٹر کی تاریخ: یکم مارچ، 2024ء

کتابوں کی بندش کی تاریخ: 08 مارچ، 2024ء تا 15 مارچ، 2024ء

لیٹرز آف رائٹس کے لئے ٹریڈنگ تاریخ: 25 مارچ، 2024ء تا 16 اپریل، 2024ء

متعلقہ رابطہ افراد کی تفصیلات:

ای میل آئی ڈی	دفتر کا پتہ	رابطہ نمبر	عہدہ	نام فرد	
haroon@image.net.pk	A/33، سنٹرل کمرشل ایریا، بلاک 7/8، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی	92 21 - 32582613	کمپنی سیکریٹری	جناب محمد ہارون سعید	اجرا کا مجاز انفر
انڈر رائٹرز					
support@munirkhanani.com	کمرہ نمبر 601-603، چھٹی منزل، سٹاک ایکسچینج بلڈنگ، کراچی	92 21 - 36490034	چیف ایگزیکٹو	مسٹر ایم منیر خانانی	مسٹر منیر ایم اے خانانی سیکیورٹیز لمیٹڈ
zubair@mra.com.pk	کمرہ نمبر 739-741، ساتویں منزل، سٹاک ایکسچینج بلڈنگ، کراچی	92 21 - 32410136	ہیڈ آف کمپلائنس	محمد زبیر	MRA سیکیورٹیز لمیٹڈ
wajid.hussain@imsecurities.com.pk	بجریہ کمپلیکس IV، (ایکسٹنشن) بلاک، پانچویں منزل چوہدری خلیق الزمان روڈ، کراچی	+92 21 - 111467000	چیف ایگزیکٹو	واجد حسین	انٹرمارکیٹ سیکیورٹیز لمیٹڈ
aziz@dawoodequities.com	1709، سترویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور "A"، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی	+92 21 - 32271985	چیف ایگزیکٹو	عبدالعزیز حبیب	داؤد اکیوٹیز لمیٹڈ
noman@adamsecurities.com.pk	روم نمبر 806-814، آٹھویں منزل، میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی	+92 21 - 32444315	ڈائریکٹر	نعمان	آدم سیکیورٹیز لمیٹڈ
اجراء کا بینکر					
ayub.baig@meezanbank.com	میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی	92 21 - 36406097	SVP-کمپنل مارکیٹس/ SBR رپورٹنگ یونٹ	مرزا یوب بیگ	میزان بینک لمیٹڈ

ویب سائٹ: یہ آفر لیٹر مندرجہ ذیل سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

www.imagepakistan.net/right-shares/<https://www.psx.com.pk>

چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فائننشیل آفیسر کا حلف نامہ

- ہم امیج پاکستان لمیٹڈ سے، اسد احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور محمد ضمیر چیف فائننشیل آفیسر تصدیق کرتے ہیں کہ:
- (i) اس آفروستاویز میں اجرا کنندہ اور اجرا کی بابت تمام تر معلومات دستیاب ہیں۔ جو کہ اجرا کے تناظر میں ضروری ہے اور اس سلسلے میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے؛
 - (ii) پیشکش کی دستاویز میں موجود تمام معلومات ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق بالکل درست اور صحیح ہیں۔
 - (iii) اس میں بیان کردہ آراء اور ارادے ایمان داری سے بیان کئے گئے ہیں؛
 - (iv) ایسی کوئی حقائق موجود نہیں جس کے چھوٹ جانے سے یہ پیشکش کی دستاویز کلی یا جزوی طور پر گمراہ کن بن جائے؛ اور
 - (v) کمپنیز ایکٹ 2017 (حصص کا مزید اجرا) ریگولیشنز 2020، سنٹرل ڈیپازٹری کمیٹی کی تمام معیارات کو پورا کیا گیا ہے۔

منجانب / برائے امیج پاکستان لمیٹڈ

sd/-

محمد ضمیر

چیف فائننشیل آفیسر

sd/-

اسد احمد

چیف ایگزیکٹو آفیسر

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حلف نامہ

- ہم، ایچ پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز حسب ذیل تصدیق کرتے ہیں کہ:
- (i) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت درکار تمام تمام تر ضروری معلومات، سکیورٹیز ایکٹ 2015 کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ریگولیشنز 2020ء، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی کمپنیوں اور سیکورٹیز کے ضوابط فہرست اس پیشکش کی دستاویز میں درج کی گئی ہیں اور یہ کہ پیشکش کی دستاویز اور دیگر معاون دستاویزات میں جو بھی درج کیا گیا ہے وہ ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق بالکل درست اور صحیح ہیں اور اس بابت کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے۔
- (ii) ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تمام ٹھوس معلومات بشمول ایسے خطرات جو سرمایہ کاروں کو باخبر فیصلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں انہیں اس پیشکش کی دستاویز میں واضح طور پر درج کر دیا گیا ہے۔
- (iii) رائٹ اجراء، اجراء کنندہ کے بورڈ کی صوابدید پر ہوتا ہے اور اس کے لئے نہ کمیشن اور نہ ہی سکیورٹیز ایکسچینج کی منظوری درکار ہوتی ہے۔
- (iv) پیشکش کی دستاویز کا مسودہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اجراء کنندہ کی ویب سائٹ پر 25-01-2024 (یعنی بورڈ کی جانب سے تاریخ اعلان کے 45 یوم کے اندر) شائع کر دیا گیا تھا۔
- (v) سکیورٹیز ایکسچینج اور SECP کی آراء 23-02-2024 کو موصول ہوئی۔
- (vi) بورڈ نے یقینی بنایا ہے کہ پیشکش کی دستاویز کا مسودہ سکیورٹیز ایکسچینج اور SECP کی آراء کے عین مطابق اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔
- (vii) بورڈ نے PSX اور کمپنی کی ویب سائٹ پر موصول تمام تر آراء کو ظاہر کر دیا ہے جس میں ایسی وضاحت موجود ہے جس کے ذریعے اس سے بردار ماہوا جاسکے۔
- (viii) پیشکش کی حتمی دستاویز کتابوں کی بندش کی تاریخ اور متعلقہ رائٹ اجراء کے شیڈول کے ہمراہ سکیورٹیز ایکسچینج کی ویب سائٹ پر 01-03-2024 (یعنی PSX اور SECP سے آراء موصول ہونے کی تاریخ سے کام کے 20 ایام کے دوران) کو شائع کر دی گئی تھی۔
- (ix) قانونی آڈیٹرز میسرز فیروز شریف طارق اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس حاصل رقوم کے استعمال کی نگرانی رکھیں گے۔

دستخط کنندگان

عظمیٰ احمد	فرناز احمد	اسد احمد
سید حسام اشرف سبزواری	جاوید احمد صدیقی	مریم احمد
	محمد زیاد اختر سید	

اظہارِ تعلق

- i. کمپنیز ایکٹ 2017ء اور کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020ء کی روشنی میں اس دستاویز کے لئے سکیورٹیز ایکسچینج اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی منظوری درکار نہ ہے۔
- ii. سکیورٹیز ایکسچینج اور SECP حسب ذیل لاطعلق اظہار کرتے ہیں:
- a. اس دستاویز کی بابت کسی بھی شخص کو پہنچنے والے کسی بھی قسم کے نقصان کی ذمہ داری سے جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں لیکن یہ فہرست محدود نہیں دستاویز ہذا کی بنیاد پر کئے جانے والے فیصلوں اور/یا کئے گئے عمل کی بابت عدم درستگی، عدم تکمیل اور/یا غلطیوں سے۔
- b. دستاویز ہذا میں درج کمپنی اور اس کی کسی بھی اسکیم/پروجیکٹ کے مالیاتی استحکام یا کسی بھی بیان کی درستگی یا اس پیشکش کی دستاویز میں کمپنی کی جانب سے ان کی بابت اظہار رائے کی ذمہ داری۔
- c. اجرا کے معیار کے حوالے سے کوئی ذمہ داری
- iii. واضح کیا جاتا ہے کہ پیشکش کی دستاویز ہذا میں درج معلومات کو SECP اور سکیورٹیز ایکسچینج کے کسی خاص معاملے پر کوئی تجویز قائم نہیں کرتیں اور اسے مخصوص تجویز کے لئے متبادل شمار نہ کیا جائے۔

تکنیکی اصلاحات اور تصدیقات کی لغت

اجراء کنندہ بینک	کوئی بھی بینک جس میں اجرا کی رقم رکھنے کے لئے اجراء کنندہ کی جانب سے ایک اکاؤنٹ کھولا اور چلایا جا رہا ہو۔ میزان بینک لمیٹڈ کو اس رائٹ اجرا میں اجراء کا بینکر مقرر کیا گیا ہے۔
CDC	سنٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ
CDS	سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم
کمپنی/میج/اجراء کنندہ	ایچ پاکستان لمیٹڈ
کمپنیز ایکٹ	کمپنیز ایکٹ 2017ء
کمیشن/SECP	سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان
عمومی حصص	کمپنی کے عمومی حصص جن کی فیس ویلیو -/10 روپے فی حصص ہو
PSX	پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ
PKR / پاکستانی روپے	پاکستان روپے
ضوابط	کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020ء
رائٹ اجرا/اجرا	کمپنی کے کل ادا شدہ سرمایہ کے 75% کے مساوی 98,729,850 رائٹ حصص
رائٹ حصص	خالصاً متعلقہ اقسام اور درجہ میں پہلے سے موجود حصص کے تناسب میں اپنے اراکین کو کمپنی کی جانب سے حصص کی پیشکش
اسپانسرز	ایک فرد جس نے اجراء کنندہ کمپنی میں ابتدائی سرمایہ کاری کی ہو یا بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر اجراء کنندہ کمپنی کے بورڈ میں ڈائریکٹرز کی کثیر تعداد کی تقرری کے لئے بااختیار ہو؛ ایسا فرد جو مذکورہ بالا کا متبادل ہو؛ اور ایک فرد یا افراد کا گروہ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر اجراء کنندہ کمپنی کا کنٹرول رکھتا/رکھتے ہوں۔

فہرست

8	رائٹ اجراء کی نمایاں خصوصیات	.1
8	رائٹ اجراء کی مختصر شرائط	1.1
10	اجراء کا بنیادی مقصد اور فنڈنگ انتظامات	1.2
10	رائٹ اجراء سے پیدا ہونے والے مالیاتی اثرات	1.3
11	اجراء کے کل اخراجات	1.4
11	انڈر رائٹرز کی تفصیلات	1.5
11	مکمل شیئر ہولڈرز/ ڈائریکٹرز کے عہد نامے	1.6
12	متناسب حصص	1.7
12	اہم تاریخیں	1.8
13	سیکریٹیشن کی رقم ادا کرنے کا طریقہ	.2
13	کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پروفائل اور سپانسرز	.3
14	کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پروفائل	3.1
15	دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کی ڈائریکٹرشپ	3.2
16	اجراء کنندہ کی مالیاتی تفصیلات	.4
16	گذشتہ تین برسوں کے لئے اجراء کنندہ کے مالیاتی اشاریے	4.1
16	منجملہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے گذشتہ ایک برس کے لئے مالیاتی اشاریے	4.2
17	گذشتہ پانچ برسوں کے دوران سرمایہ کے اجراء کی تفصیلات	4.3
17	گذشتہ چھ مہینوں کے دوران اجراء کنندہ کے حصص کی اوسط مارکیٹ قیمت	4.4
17	سرمایہ حصص اور متعلقہ معاملات	4.5
19	خطرے کے عوامل	.5
19	رائٹ اجراء سے منسوب خطرہ	5.1
19	اجراء کنندہ سے منسوب خطرہ	5.2
23	قانونی کارروائیاں	.6
23	کمپنی کی زیر التوا قانونی کارروائیاں	6.1
23	اپنے ضوابط کی عدم تعمیل کے باعث گذشتہ تین برسوں کے دوران اجراء کنندہ یا اجراء کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے خلاف سیوریٹیز ایپینج کی جانب سے کی گئی کارروائی	6.2
23	اجراء کنندہ، اس کے سپانسرز، مکمل شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں سے منسوب عمومی کاروباری امور کے علاوہ زیر التوا قانونی کارروائیاں جن پر اجراء کنندہ کا کنٹرول ہو اور اجراء پر جس کے ٹھوس اثرات مرتب ہوں	6.3
24	دستاویز کے دستخط کنندگان	.7
25	ضمیمہ A	.8

رائٹ اجراء کی نمایاں خصوصیات 1

1.1 رائٹ اجراء کی مختصر شرائط

(a)	اجراء کی تفصیل	موجودہ شیئر ہولڈرز کو رائٹ حصص کا اجراء
(b)	مجوزہ اجراء کا سائز	10/- روپے فی حصص کی اجراء قیمت پر 98,729,850 عمومی حصص کے اجراء کے ذریعے -/987,298,500 روپے کا سرمایہ اکٹھا کرنا
(c)	حصص کی فیس ویلیو	10/- روپے
(d)	رائٹ اجراء کی قیمت کے تعین کی بنیاد	کمپنی کے حصص کی حالیہ مارکیٹ ویلیو اور بریک اپ ویلیو فی حصص 1 جیسے متعدد عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رائٹ اجراء کی قیمت کو معقول قرار دیا ہے۔
(e)	موجودہ حصص کے ساتھ نئے حصص کا تناسب بمعہ لاگو شرائط	ہر 100 ملکیتی عمومی حصص کے لئے 75 حصص یعنی کمپنی کے موجودہ ادا شدہ سرمایہ کا 75%
(f)	بورڈ آف ڈائریکٹرز (BoD) کے اجلاس کی تاریخ جس میں رائٹ اجراء کو منظور کیا گیا	جمعہ 19 جنوری 2024ء
(g)	بورڈ اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کے نام	1. مسٹر اسد احمد 2. مس فرناز احمد 3. مس عظمیٰ احمد 4. مس مریم احمد 5. مسٹر جاوید احمد صدیقی 6. مسٹر ایس حسام اشرف سبزواری 7. مسٹر ایم زیاد اختر سید

¹ گزشتہ چھ ماہ کی اوسط قیمت حصص 14.14 روپے (یکم جولائی 2023ء تا 31 دسمبر 2023ء)

<p>حالیہ پیداواری استعداد کی توسیع اور کمپنی کے زیر کار سرمایہ کے لئے فنڈز اکٹھا کرنا رائٹ اجراء کا مقصد ہے جو کاروبار کی ترقی کے لئے انتہائی اہم ہے۔ یہ کمپنی کی وسیع حکمت عملی کے عین مطابق ہے تاکہ منافع کمانے اور نتیجتاً شیئر ہولڈرز کو بہتر ریٹرن دینے کے لئے کمپنی کی مالیاتی حالت کو مزید مستحکم کیا جاسکے۔</p>	<p>رائٹ اجراء سے حاصل آمدنی کے استعمال کا مختصر مقصد</p>	<p>(h)</p>
<p>کمپنی اراضی خریدنے اور حالیہ پیداواری استعداد میں اضافے کی خاطر ملٹی ہیڈ مشینیں نصب کرنے کے لئے رائٹ اجراء کے ذریعے رقم اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ معیاری مصنوعات کی تیاری اور لاگت میں کمی کی خاطر کڑھائی کا کام ٹھیکے پر نہ دینا پڑے۔ مزید برآں مختلف شہروں میں نئے آؤٹ لیٹس کا قیام اور زیر کار سرمایہ کی ضروریات کو بھی پورا کیا جاسکے اور مشارکہ فنانس کو بھی کم کیا جاسکے تاکہ کمپنی کے منافع میں اضافہ کیا جاسکے۔ جس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:</p>	<p>رائٹ اجراء کا مقصد - حالیہ رائٹ اجراء کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کے لئے بنیادی مقصد کی تفصیل</p>	<p>(i)</p>
<p>کوئی نہیں</p>	<p>سبسکریپشن کی کم از کم سطح (MLS)</p>	<p>(j)</p>
<p>نا قابل اطلاق</p>	<p>رائٹ حصص کی سبسکریپشن کے لئے بلاک شدہ رقم سے مزین درخواست کی سہولت، اگر کوئی ہو، فراہم کی جائے گی۔</p>	<p>(k)</p>

1.2 اجرا کا بنیادی مقصد اور فنڈنگ کے انتظامات

A رائٹ اجرا کے بنیادی مقصد کی تفصیلات		
کمپنی اپنے سرمایہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے BMR اور توسیعی منصوبہ پر موثر عمل درآمد کے لئے رائٹ اجرا کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ کمپنی کے منافع میں اضافے کے مقصد کو حاصل کیا جاسکے۔ آئیٹیم پر مبنی بریک اپ حسب ذیل ہے:		
اجرا کا مقصد	رقم (روپے)	رائٹ اجرا آمدنی کی اوسط
سرمایہ زیر کار	397,298,500	40%
ملٹی ہیڈ مشینیں	120,000,000	12%
ارضی کی خرید*	300,000,000	31%
مشارکہ میں کٹوتی	170,000,000	17%
میزان	987,298,500	100%

** تناسب ارضی سائٹ کراچی میں خرید کی جائے گی۔ اور PBA سے منظور شدہ تین کتہہ قیمت کا تخمینہ لگائے گا۔

B رائٹ اجرا کے مقصد کی بابت اضافی اظہار	
سرگرمیاں جنہیں زیر کار سرمایہ	وسیع سرگرمیاں حسب ذیل ہیں جنہیں کمپنی کے کاروبار/آپریٹرز اور وقتاً فوقتاً ضروریات کی
شمار کیا گیا ہے:	بنیاد پر زیر کار سرمایہ شمار کیا گیا ہے
	خام اور پیکنگ مال کا حصول بشمول انویسٹری
	وینڈرز/صارفین کے واجبات
	300,000,000
	صنعتی اخراجات
	97,928,500
	زیر کار سرمایہ کی ضرورت کا تعین کمپنی آپریٹرز کے سابقہ اعداد و شمار، حالیہ مہنگائی، منڈی کے حالات وغیرہ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

1.3 رائٹ اجرا سے پیدا ہونے والے مالیاتی اثرات

تفصیل	پیمائش کی اکائی	قبل از اجراء	مابعد اجراء
مجاز سرمایہ	روپے	3,000,000,000	3,000,000,000
اداشدہ سرمایہ*	روپے	1,316,398,000	2,303,696,500
تعداد حصص	تعداد	131,639,800	230,369,650
کل ایکویٹی	روپے	2,562,590,200	3,549,888,700
خالص اثاثہ جات/بریک اپ ویلیو فی حصص*	روپے	19.47	15.41
گیئرنگ تناسب**	فی صد	7.79%	5.75%
پیداواری استعداد	ملٹی ہیڈ مشینیں	40	60
مارکیٹ شیئر***	فی صد		

حاشیہ

* بے اعداد 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس سے لئے گئے ہیں۔ بریک اپ ویلیو کا تعین حسب ذیل ہے: ایکویٹی = تعداد حصص

** متوقع/تخمینہ جاتی: خالص قرضہ (کل قرضہ - کیش اور بینک بیلنس) = کل سرمایہ (خالص قرضہ + کل ایکویٹی)

*** متوقع/تخمینہ جاتی

اجراء کے کل اخراجات

1.4

1%	روپے	انڈر رائٹنگ کمیشن
3%	روپے	انڈر رائٹر کا ٹیک اپ کمیشن
100,000	روپے	اجرا کا ٹیکس - آؤٹ آف پاکٹ
1,421,710	روپے	CDC - تازہ ترین اجراء کی فیس
1,000,000	روپے	CDC - اہل سکیورٹیز کے لئے سالانہ فیس (لسٹنگ فیس)
1,974,597	روپے	PSX [†] فیس (اداشدہ سرمایے میں اضافے کا 0.2%)
197,460	روپے	SECP سپروائزری فیس (PSX کو اداشدہ فیس کا 10%)
100,000	روپے	آڈیٹرز کی فیس
9,872,985	روپے	اسٹامپ ڈیوٹی برائے اجراء اضافی حصص
500,000	روپے	پرنٹنگ اخراجات
1,500,000	روپے	فیس وکیل و مشاورت فیس

فنڈ انڈر رائٹر کی تفصیلات

1.5

اجرا کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی / ایسوسی ایٹڈ انڈر رائٹنگ	انڈر رائٹنگ رقم	نام انڈر رائٹر
کوئی نہیں	250,260,960/- روپے	ایم میر ایم اے خانانی سکیورٹیز لمیٹڈ
کوئی نہیں	150,000,000/- روپے	MRA سکیورٹیز لمیٹڈ
کوئی نہیں	150,000,000/- روپے	انٹر مارکیٹ سکیورٹیز لمیٹڈ
کوئی نہیں	100,000,000/- روپے	داؤدا کیو بی سکیورٹیز لمیٹڈ
کوئی نہیں	18,000,000/- روپے	آدم سکیورٹیز لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کی جانب سے عہد

1.6

نام فرد	حیثیت (مکمل شیئر ہولڈر / ڈائریکٹر)	سبسکرائب کا وعدہ کئے جانے والی حصص کی تعداد*	سبسکرائب کا وعدہ کی جانے والی رقم	شیئر ہولڈنگ (ما بعد اجراء)** %
مسٹر اسد احمد	چیف ایگزیکٹو	16,976,476	169,764,760	17.20
مس فرناز احمد	ڈائریکٹر	7,078,802	70,788,020	7.17
مس عظمیٰ احمد	ڈائریکٹر	1,778,219	1,778,219	1.80
مس مریم احمد	ڈائریکٹر	6,066,665	60,666,650	6.14
مسٹر جاوید احمد صدیقی	ڈائریکٹر	996	9,960	0.002
مسٹر الیس حسام اشرف سبزواری	ڈائریکٹر	1,734	17,340	0.001
مسٹر ایم زیاد اختر سید	ڈائریکٹر	862	8,620	0.001

* انہیں مذکورہ ڈائریکٹر کی جانب سے مقررہ شخص کے ذریعے سبسکرائب کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ضوابط کے مطابق اجازت ہے۔

** رائٹ اہلیت کی حقیقی سبسکریپشن سے شرط (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے) افراد کی جانب سے مقررہ کردہ افراد کے ذریعے سبسکرائب کی جاسکتی ہے (اور/یا اضافی حصص کی سبسکریپشن

متناسب حصص

1.7

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 19 جنوری 2024ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ تمام متناسب اہلیتیں، اگر کوئی ہوں، کمپنی سیکریٹری کے نام پر (بطور امانت) اکٹھی کی جائیں گی اور اس بابت غیر ادا شدہ لیٹر آف رائٹس کو PSX میں فروخت کر دیا جائے گا۔ اور اس فروخت سے حاصل خالص آمدنی ضوابط کے مطابق متعلقہ متناسب اہلیت کی بنیاد پر اہل شیئرز ہولڈرز کو تقسیم/ ادا کر دی جائے گی۔

اہم تواریخ

1.8

ایمچ پاکستان لمیٹڈ لیٹر آف رائٹس کے اجراء کے لئے مجوزہ شیڈول کتابوں کی بندش: 8 مارچ، 2024 تا 15 مارچ، 2024ء (بشمول دونوں ایام)			
نمبر شمار	طریق عمل	دن	تاریخ
(a)	بک انٹری فارم میں CDC میں غیر ادا شدہ رائٹس کے کریڈٹ کی تاریخ	پیر	18.03.2024
(b)	لیٹر آف رائٹس (LOR) فزیکل شیئرز ہولڈرز کو منتقلی	جمعرات	21.03.2024
(c)	لیٹر آف رائٹس (LOR) فزیکل شیئرز ہولڈرز کو منتقلی/ کریڈٹ کی PSX کو اطلاع	جمعہ	22.03.2024
(d)	کراچی اسٹاک ایکسچینج پر غیر ادا شدہ رائٹس کی تجارت کا آغاز	پیر	25.03.2024
(e)	CDS میں درخواستیں علیحدہ کرنے اور جمع کرانے کی آخری تاریخ	بدھ	03.04.2024
(f)	رائٹس لیٹر کی تجارت کا آخری دن	منگل	16.04.2024
(g)	CDC اور فزیکل فارم میں حصص کی قبولیت اور ادائیگی کی آخری تاریخ - ادائیگی کی آخری تاریخ	منگل	23.04.2024
(h)	شیئرز کی الاٹمنٹ اور شیئرز کی CDC میں بک انٹری کا کریڈٹ	پیر	13.05.2024
(i)	فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس ڈسپینچ کرنے کی تاریخ	بدھ	22.05.2024

سبسکریپشن کی رقم ادا کرنے کا طریقہ کار .2

- (a) مذکورہ بالا رقم کی ادائیگی ”میج پاکستان لمیٹڈ - رائٹ حصص سبسکریپشن اکاؤنٹ“ میں بذریعہ کیش یا کراس چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آرڈر کی جائے۔ یہ رقم 23 اپریل 2024ء تک مذکورہ بالا بینک (بینکوں) کی مجاز شاخوں کے ذریعے جمع کرائی جائے۔ جب کہ سبسکریپشن کی باقاعدہ پورا دستخط شدہ درخواست برائے رائٹ سبسکریپشن ہمراہ ہو۔
- (b) رائٹ سبسکریپشن درخواست کمپنی کی ویب سائٹ www.imagepakistan.net/right-shares سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔
- (c) غیر مقیم پاکستانی / غیر ملکی شیئر ہولڈرز کی صورت میں پاکستانی روپے میں مساوی رقم کا ڈیمانڈ ڈرافٹ میج پاکستان لمیٹڈ کے کمپنی سیکریٹری کو ان کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ پورا دستخط شدہ رائٹ سبسکریپشن درخواست (دونوں کی نقول) اور NICOP / پاسپورٹ کی مصدقہ نقول ادائیگی کی آخری تاریخ سے قبل جمع کرائیں۔
- (d) تمام چیک اور ڈرافٹس مذکورہ شہر میں واقع بینکوں کے نام پر تیار کئے جائیں جہاں سبسکریپشن کی درخواست جمع کرائی گئی ہو۔ چیک ادائیگی سے مشروط ہے۔
- (e) اجراء کنندہ کا بینکر بذریعہ ڈاک ارسال کی گئی رائٹ سبسکریپشن درخواست 23 اپریل، 2024ء کو کاروبار بند ہونے کے بعد موصول ہوئی تو اسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ اس کا ثبوت دستیاب نہ ہو کہ یہ ادائیگی کی آخری تاریخ سے قبل پوسٹ کیا گیا تھا۔
- (f) بینکر کو 23 اپریل 2024ء تک موصول ہونی والی رقم کو رائٹ آفس کی قبولیت کے طور پر شمار کیا جائے گا۔
- (g) کمپنی کے بینکر / بینکرز کی جانب سے اجراء کے لئے رقم وصول ہونے کے بعد ادائیگی کی آخری تاریخ سے 14 کاروباری دنوں کے اندر رائٹ سیکورٹیز متعلقہ CDS اکاؤنٹس میں جمع کر دی جائیں گی۔ ادا شدہ رائٹ سبسکریپشن کی درخواست کی تجارت یا منتقلی نہیں کی جائے گی۔
- (h) AIS اکاؤنٹ ہولڈرز / ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے آن لائن ادائیگی کا اختیار:
- CDS نے رائٹ سبسکریپشن کے لئے ایک لنک کے ذریعے آن لائن ادائیگی کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ سرمایہ کار اکاؤنٹ ہولڈرز اب سبسکریپشن کی درخواست (CDS کے ذریعے تیار کردہ) کے اوپر دائیں جانب پرنٹ کردہ Bill 1 پیمنٹ آئی ڈی پر سبسکریپشن کے لئے اپنے متعلقہ رائٹ کے لئے 1Link ممبر بینکوں کے تمام دستیاب آن لائن بینکنگ چینلز (جیسے انٹرنیٹ بینکنگ، آٹو میٹڈ ٹیلر مشین (ATM) اور موبائل بینکنگ) کے ذریعے آن لائن ادائیگی کر سکتے ہیں۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پروفائل .3

بورڈ آف ڈائریکٹرز		
تاریخ تقرری	عہدہ	نام
24.12.2021	چیف ایگزیکٹو	اسد احمد
24.12.2021	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	فرناز احمد
24.12.2021	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	عظمتی احمد
24.12.2021	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	مریم احمد
24.12.2021	ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جاوید احمد صدیقی
24.12.2021	خود مختار ڈائریکٹر	الیس حسام اشرف سبزواری
24.12.2021	خود مختار ڈائریکٹر	ایمز یاد اختر سید

3.1 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پروفائل

اسد احمد - چیف ایگزیکٹو

اسد احمد ایک معروف کاروباری فرد ہیں جو صنعت، درآمد و برآمد، تجارت اور فائننس میں 35 سال سے زائد کا متنوع تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (CEO) ہیں۔ انہوں نے انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن (IBA) کراچی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ مسٹر احمد کا خاندان عرصہ 200 برس سے کاروبار سے منسلک ہے جو ابتدائی طور پر بھارت میں تجارت کرتے تھے اور 1948 میں پاکستان کو ہجرت کر گئے تھے۔ بعد ازاں 70 برس قبل مینوفیکچرنگ کے شعبہ سے منسلک ہوئے۔ بطور ٹیم لیڈر انڈسٹری اور مذکورہ شعبے کے وسیع علم کے ساتھ بصیرت کے ذریعے کمپنی کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے۔ وہ 4 لفظ کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہیں اور اپنے عہدے میں رہتے ہوئے وہ کاروباری شعبہ سے اچھی طرح واقف ہیں اور کمپنی میں کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے نفاذ اور انتظام میں انتہائی موثر ہیں۔

فرناز احمد - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر

فرناز احمد نے انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن (IBA) کراچی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویٹ کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر اسد احمد کے ہمراہ اس کمپنی کی بانی ہیں اور جنہوں نے 1993ء میں ایچ براؤنڈ کو شروع کیا۔ وہ کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو گذشتہ 70 برس سے مینوفیکچرنگ اور صارف اشیاء کی مارکیٹنگ سے منسلک ہیں۔ وہ تخلیقی ڈیزائن کی تیاری، سپلائی چین اور آؤٹ لیٹ مینجمنٹ کے لئے ذمہ دار ہیں۔

عظمیٰ احمد - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر

عظمیٰ احمد نے یونیورسٹی آف واروک سے اکنامکس میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے قانون اور اکاؤنٹنگ میں ایم ایس سی کیا۔ عظمیٰ نے کارآمد مینوفیکچرنگ سسٹم کے ذریعے خواتین کے ریڈی ٹو ویئر کپڑوں میں تنوع اور ریٹیل بزنس کے لئے مختلف مواقع کی نشاندہی کی تاکہ مقامی منڈی میں نسبتاً کم قیمت گارمنٹس عوام کو پیش کئے جاسکیں۔ سال 2016ء میں انہوں نے ایچ میں شمولیت اختیار کی اور کراچی اور لاہور میں بطور ہائی اسٹریٹ ریٹیل فیشن لیبل اسٹور نیٹ ورک کو وسیع کیا اور اب پاکستان کے چھ شہروں میں 14 برک اور مورٹرز سٹورز میں اس کی اپنی ایک ساکھ ہے۔

مریم احمد - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر

مریم احمد نے یونیورسٹی آف واروک سے میٹھمیکلکس اور بزنس میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور اپنے ملک میں واپسی سے قبل انہوں نے دو سال تک ویلس ٹاورز وائس لندن کے لئے ایچ ایم ای میل کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کیا۔ انہوں نے اس برانڈ کے لئے ایک مستحکم ای کامرس پلیٹ فارم قائم کیا ہے جب کہ انہوں نے ایک ان ہاؤس مارکیٹ ٹیم بھی تشکیل دی ہے تاکہ حالیہ ڈیجیٹل دور میں تیز ترین ترقی اور سیل کے امور کو بروئے کار لایا جاسکے۔

جاوید احمد صدیقی - ایگزیکٹو ڈائریکٹر

جاوید احمد صدیقی اس صنعت میں 39 سالہ تجربہ کے ساتھ بی ای مکیٹنگ انجینئر ہیں۔ وہ کمپنی کے بانی ڈائریکٹرز میں سے ایک ہیں۔

ابن حسام اشرف سزواری - خود مختار ڈائریکٹر

ابن حسام اشرف سزواری نے MAJU کراچی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویٹ کیا۔ وہ فروری 2020ء میں HBL سے ریٹائر ہوئے۔ وہ پروجیکٹ فائننگ، کریڈٹ اور رسک مینجمنٹ میں 35 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔

ایم زیاد اختر سید - خود مختار ڈائریکٹر

ایم زیاد اختر سید نے سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ (SSGC) میں بطور جنرل مینجر اپنی خدمات سرانجام دیں۔ وہ سال 2020ء میں SSGC سے ریٹائر ہوئے۔

دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کی ڈائریکٹر شپ

3.2

<p>A.R.T. مضارہ مینجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ اینڈ بیٹیل لمیٹڈ ایچ ٹیک لمیٹڈ انڈس بیٹری انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پریسٹیج انٹرپرائزز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سائونک پراپرٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سائونک REIT مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ ٹرائی اشارانہ جی لمیٹڈ ٹرائی اشارفاؤنڈیشن ٹرائی اشارامیج (یو ایس اے) انکارپوریٹڈ ٹرائی اشارافونڈیشن لمیٹڈ ٹرائی اشارلیزنگ لمیٹڈ ٹرائی اشارمیوچل فنڈ لمیٹڈ ٹرائی اشارپاور لمیٹڈ</p>	<p>اسد احمد چیف ایگزیکٹو DMCHS، 21، بلاک 7/8، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی</p>
<p>انڈس بیٹری انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سائونک پراپرٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ</p>	<p>فرناز احمد ٹران ایگزیکٹو ڈائریکٹر DMCHS، 21، بلاک 7/8، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی</p>
<p>ایچ اینڈ بیٹیل لمیٹڈ ایچ ٹیک لمیٹڈ ٹرائی اشارامیج (یو ایس اے) انکارپوریٹڈ ٹرائی اشارپاور لمیٹڈ ٹرائی اشارفاؤنڈیشن UMF (پرائیویٹ) لمیٹڈ</p>	<p>عظمی احمد ٹران ایگزیکٹو ڈائریکٹر DMCHS، 21، بلاک 7/8، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی</p>
<p>ایچ اینڈ بیٹیل لمیٹڈ ایچ ٹیک لمیٹڈ سائونک REIT مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ ٹرائی اشارانہ جی لمیٹڈ ٹرائی اشارامیج (یو ایس اے) انکارپوریٹڈ ٹرائی اشارلیزنگ لمیٹڈ ٹرائی اشارمیوچل فنڈ لمیٹڈ UMF (پرائیویٹ) لمیٹڈ</p>	<p>مریم احمد ٹران ایگزیکٹو ڈائریکٹر DMCHS، 21، بلاک 7/8، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی</p>
<p>ٹرائی اشارپاور لمیٹڈ ٹرائی اشارمیوچل فنڈ لمیٹڈ</p>	<p>جادید احمد صدیقی ایگزیکٹو ڈائریکٹر 43/2 مرکزی خیابان سحر، فیز- 6، اسٹریٹ 13، ڈی ایچ اے کراچی</p>
<p>کوئی نہیں</p>	<p>ایس حسام اشرف ہزوری خود مختار ڈائریکٹر C-81/1، بلاک 1-ا، نارتھ ناظم آباد، کراچی</p>
<p>نیو انرجی (SMC) - پرائیویٹ) لمیٹڈ</p>	<p>ایم زید اختر سید خود مختار ڈائریکٹر 12-A/1، سنٹرل ایویینیو، فیز- II، ڈی ایچ اے، کراچی</p>

4.1 گذشتہ تین برسوں کے لئے اجراء کنندہ کے مالیاتی اشاریے

مالیاتی سال 2020-2021	مالیاتی سال 2021-2022	مالیاتی سال 2022-2023	تفصیل	نام مجاز آڈیٹرز
1,133,338,549	1,534,814,429	2,329,436,354	روپے	کل آمدنی/سبز
442,043,924	703,940,425	848,131,580	روپے	کل منافع
199,198,987	211,095,317	303,068,009	روپے	آپریٹنگ منافع
115,099,317	174,044,997	207,801,429	روپے	نفع علاوہ ٹیکس
104,485,282	232,603,180	128,862,856	روپے	مجموعی منافع
2,070,759,234	2,477,634,413	3,453,575,632	روپے	کل اثاثہ جات
851,737,478	651,456,177	1,008,755,797	روپے	کل واجبات
1,219,021,756	1,826,178,236	2,444,819,835	روپے	خالص ایکویٹی
21.43	18.35	18.57	روپے	بریک اپ ویلیو فی حصص
2.02	2.06	1.91	روپے	فی حصص آمدنی
56,879,201	-	197,459,700	روپے	اعلان کردہ منافع منقسمہ
-	149,307,900	171,704,088	روپے	جاری بونس

4.2 مجموعی مالیاتی اشاریے کے گذشتہ ایک برس کے لئے مالیاتی اشاریے

مالیاتی سال 2020-2021	مالیاتی سال 2021-2022	مالیاتی سال 2022-2023	تفصیل	نام مجاز آڈیٹرز
3,026,989,986	1,042,202,753	384,719,616	روپے	کل آمدنی/سبز
1,042,202,753	384,719,616	288,637,106	روپے	کل منافع
384,719,616	288,637,106	246,532,057	روپے	آپریٹنگ منافع
288,637,106	246,532,057	3,618,879,008	روپے	نفع علاوہ ٹیکس
246,532,057	3,618,879,008	1,056,288,808	روپے	مجموعی منافع/(نقصان)
3,618,879,008	1,056,288,808	2,562,590,200	روپے	کل اثاثہ جات
1,056,288,808	2,562,590,200	19.47	روپے	کل واجبات
2,562,590,200	19.47	-	روپے	خالص ایکویٹی
19.47	-	197,459,700	روپے	بریک اپ ویلیو فی حصص
-	197,459,700	171,704,088	روپے	فی حصص (خسارہ)
197,459,700	171,704,088		روپے	اعلان کردہ منافع منقسمہ
171,704,088			روپے	جاری بونس

گذشتہ پانچ برسوں کے دوران سرمایہ کے اجراء کی تفصیلات

4.3

FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	رائٹ اجرا
-	-	-	75%	-	اوسط
-	-	-	42,659,401	-	تعداد حصص
-	-	-	598,342,185	-	حاصل کی گئی رقم (روپے)
-	-	-	41,548,830	-	ان سبسکرائیڈ حصص (روپے)
-	-	-	41,548,830	-	BoD سے تفویض شدہ ان سبسکرائیڈ حصص
-	-	-	-	-	انڈر رائٹرز کی جانب سے لیا گیا ان سبسکرائیڈ حصص
-	-	-	100%	-	آمدنی کے استعمال کا بریک اپ

گذشتہ چھ ماہ کے دوران اجراء کنندہ کے حصص کی اوسط مارکیٹ پرائس

4.4

گذشتہ چھ ماہ (جولائی 2023 تا دسمبر 2023) کے دوران اجراء کنندہ کے حصص کی اوسط مارکیٹ پرائس 14.14

روپے فی حصص ہے۔

سرمایہ حصص اور متعلقہ معاملات

4.5

اجراء کنندہ کا پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ

(%)	ملکیتی حصص	شیئر ہولڈرز
		ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کے اہلیان اور کم سن بچے
17.20	22,635,302	اسد احمد
7.17	9,438,403	فرناز احمد
1.81	2,370,959	عظمیٰ احمد
6.14	8,088,887	مریم احمد
0.001	1,329	جاوید احمد صدیقی
0.001	2,313	ایس حسام اشرف سبزواری
0.001	1,150	ایم زیاد اختر سید
		ایسوسی ایٹڈ کمپنی انڈر ٹیلنگ اور متعلقہ فریقین
0.001	1,100	فرسٹ ٹرائی اشار مضاربہ
0.061	80,870	پریسج انٹر پرائزز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
0.108	141,824	ٹرائی اشار انویسٹمنٹس لمیٹڈ
0.03	38,487	NIT & ICP

0.14	186,150	بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے، نان بینکنگ مالیاتی ادارے
0.34	444,506	انشورنس اور لیزنگ کمپنیاں
3.72	4,892,400	مضاربہ اور میوچل فنڈز
0.05	60,117	انویسٹمنٹ کمپنیاں
54.81	72,151,999	عوام الناس (مقامی)
8.02	10,557,136	دیگر کمپنیاں
0.42	546,868	جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں
100%	131,639,800	میزان

اجراء کنندہ کے ڈائریکٹرز کے ملکیتی حصص (موجودہ اور مابعد رائٹ اجراء)

%	بعد از رائٹ اجراء شیئر ہولڈنگ ⁴	%	موجودہ شیئر ہولڈنگ	ڈائریکٹرز کے ملکیتی حصص
17.20	39,611,778	17.20	22,635,302	اسد احمد
7.17	16,517,205	7.17	9,438,403	فرناز احمد
1.80	4,149,178	1.80	2,370,959	عظمیٰ احمد
6.14	14,155,552	6.14	8,088,887	مریم احمد
0.001	2,325	0.001	1,329	جاوید احمد صدیقی
0.002	4,047	0.002	2,313	ایس حسام اشرف سبزواری
0.001	2,012	0.001	1,150	ایم زیاد اختر سید

⁴ رائٹ اجراء کے دوران سبسکرائب شدہ حصص کی حقیقی تعداد سے مشروط (یاد رہے کہ ڈائریکٹرز اور سبسکرائبرز دوسروں کو اپنی اہلیوں کو سبسکرائب کرنے میں مدد کر سکتے ہیں مزید برآں، ایسے افراد بورڈ کی جانب

سے اضافی جاری کردہ حصص کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔)

5. خطرے کے عوامل

5.1 رائٹ اجراء کی بابت خطرے کے عوامل

انڈر سبسکرپشن رسک

ایسا خطرہ موجود ہے کہ رائٹ اجراء کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی عدم دلچسپی کے باعث انڈر سبسکرائب ہو سکتا ہے۔ رائٹ اجراء ایسی قیمت پر کیا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں حصص کی حالیہ قیمت سے کم ہو لہذا رائٹ اجراء کی بابت بھاری سرمایہ کاری کا خطرہ منسوب نہیں ہے۔ کمپنی کے ممکنہ شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ اپنی متعلقہ رائٹ انٹیکسٹ کے تحت سبسکرائب (یا سبسکرائب کرنے کا انتظام) کریں گے۔ جب کہ رائٹ اجراء کا بقیہ حصہ مروجہ قوانین کے تحت انڈر رائٹ کیا جائے گا۔

یہ خطرہ کمپنی کی طرف سے ڈیزائن بنانے کے تسلسل کا ہے جسے ہمارے صارفین نے مارکیٹ میں سراہا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور بڑا خطرہ نہیں ہے جس کا کمپنی کو سامنا کرنا پڑے اس خطرے کو عملے کے برقرار رکھنے کی ترغیبات کو نافذ کرنے سے کم کیا جاتا ہے۔

البتہ، کمپنی کا رائٹ اجراء ایسی قیمت پر کیا جاتا ہے جو منڈی میں حصص کی حالیہ قیمت سے کم ہو۔ لہذا رائٹ اجراء کی بابت بھاری سرمایہ کاری سے کوئی خطرہ منسوب نہیں۔ ڈائریکٹرز/شیئر ہولڈرز سے حلف دیا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ انٹیکسٹ کے تحت سبسکرپشن (سبسکرپشن کا انتظام) کریں گے۔ رائٹ اجراء کے بقیہ حصے کو مروجہ ضوابط کی روشنی میں مکمل طور پر انڈر رائٹ کیا جائے گا۔ کاروبار کے سے معمول کے خطرات منسوب رہیں گے۔

5.2 اجراء کنندہ سے منسوب خطرہ

آپریشنل رسک

آپریشنل رسک خصوصاً پلانٹ آپریشنز کی بابت روزمرہ کی کاروباری سرگرمیاں چلانے کی کوشش میں کاروبار کو درپیش بے یقینی کی صورت حال کا خلاصہ کرتا ہے۔ یہ اندرونی عمل، لوگوں اور سسٹمز کی خرابی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ ہنرمند عملے کے بلنڈرن اور کتنا سب، کمپنی کی سپلائی چین میں خلل یا نامناسب منصوبہ بندی کمپنی کو درپیش آپریشنل خطرے کا موجب بن سکتے ہیں۔

کمپنی اضافی ٹرن اوور سے نبرد آزما ہونے اور اسٹاف کو برقرار رکھنے کے اقدامات بشمول ٹریننگ اور مسابقتی فوائد کو نافذ کر کے آپریشنل خطرے کو کم کر رہی ہے۔ مزید برآں، کمپنی ایک متنوع سپلائی چین کی منصوبہ بندی کے عمل کو اپنا رہی ہے اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مضبوط حکمت عملیوں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔

پروکیورمنٹ رسک

ایمپرائڈری فیبرکس مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں نمایاں کھلاڑی کے طور پر کاروبار کے ساتھ پروکیورمنٹ رسک سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ شعبہ خصوصاً خام مال کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے حساس ہے۔ مزید برآں، شرح مبادلہ میں اتار چڑھاؤ خام مال کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شفافیت کے لئے ہمارے عزم میں قبل از وقت پروکیورمنٹ حکمت عملی، متنوع سپلائی اور مارکیٹ اشاریوں کی مربوط نگرانی کے ذریعے ان خطرات کو تسلیم کرنا اور ان سے نبرد آزما ہونا شامل ہے۔

کریڈٹ رسک

کریڈٹ رسک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اپنے مالیاتی فرائض کی انجام دہی میں ناکامی سے مالیاتی انسٹرومنٹ کے ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کمپنی انفرادی صارفین کی بابت کریڈٹ لمٹ قائم کر کے اور نقد اشیا فروخت کر کے کریڈٹ رسک کو میج کرتی ہے۔ نتیجتاً، کمپنی یقین رکھتی ہے کہ اسے کریڈٹ رسک کے کسی بھی بڑے ارتکاز کا سامنا نہیں ہے۔

لیکویڈٹی رسک

لیکویڈٹی رسک وہ خطرہ ہے جہاں ایک ادارہ اپنے مالیاتی واجبات سے منسوب اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ کمپنی معقول کیش کو برقرار رکھ کے لیکویڈٹی رسک سے بچتی ہے اور مناسب کریڈٹ سہولیات کے لئے فنڈز کی دستیابی کو یقینی بناتی ہے۔ مذکورہ بالا کی روشنی میں انتظامیہ یقین رکھتی ہے کہ لیکویڈٹی رسک معمولی ہے۔

SECP اور PSX کے ضوابط کی عدم تعمیل کا خطرہ

SECP اور PSX کے ریگولیٹری معیارات کی عدم تعمیل کی صورت میں کمپنی کو PSX کے نادرہندہ شعبے میں رکھا جاسکتا ہے جس سے کمپنی کے حصص کی تجارت ممکنہ طور پر متاثر ہو سکتی ہے جس کے باعث کمپنی ک حصص کی تجارت معطل اور کمپنی ڈی لسٹ ہو سکتی ہے۔

SECP اور PSX ضوابط کی عدم تعمیل کے خطرے سے نبرد آزما ہونے کے لئے کمپنی نے داخلی تعمیلی فریم ورک قائم کیا ہے اور جاری رہنمائی کے لئے قانونی نمائندے سے رابطہ کرتی ہے اور باقاعدگی سے ریگولیٹری تبدیلیوں پر نظر رکھتی ہے اور ریگولیٹری اداروں کے ساتھ کھلی رابطہ سازی برقرار رکھتی ہے۔ ان اقدامات کا مجموعی مقصد ریگولیٹری معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے۔

بیرونی رسک عوامل

.2

بزنس رسک

بزنس رسک میں مندرجہ ذیل عوامل کے باعث کمپنی کی جانب سے ممکنہ نفع و نقصان سے کم رپورٹ کرنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔

- پیداواری لاگت یعنی خام مال کی قیمتوں میں اضافہ

- مبادلہ/سہولیات کی قیمت میں اضافہ

کمپنی بزنس رسک سے نبرد آزما ہونے کے لئے حکمت عملیوں پر مؤثر انداز میں عمل کرتی ہے جس میں سپلائرز میں تنوع، اینالٹکس کے ذریعے لاگت کی پیشینگوئی اور حکومت کے ساتھ مستحکم تعلقات برقرار رکھنا شامل ہیں۔

شرح سود کا رسک

شرح سود کا رسک ایسا خطرہ ہے جہاں مارکیٹ کی شرح سود میں تبدیلی کے باعث مالیاتی انسٹرومنٹس کی قیمت میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے تو قرضوں پر لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے باعث کمپنی کو اپنے امور سرانجام دینے کے لئے زیادہ سرمایہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ اس کاروباری اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور معاشی نمونہ ہونے کے باعث منافع بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کاروباری سرمایہ کاری کے دوران نئے پروجیکٹس پر سرمایہ داری مزید مہنگی ہونے کے باعث اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔

Offer Document | Image Pakistan Limited

کمپنی مارکیٹ کی شرح کی لگاتار نگرانی کرتی ہے اور متغیر شرح پر قلیل مدتی قرض سے وابستہ شرح سود کے خطرے کو کم کرنے کے لئے حکمت عملی وضع کرتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کمپنی رائٹ اجراء سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے زیر کار سرمایہ کی ضروریات بشمول قلیل مدتی قرضوں پر انحصار کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اس طریق عمل کا مقصد موثر لاگت کی حامل فائمنسنگ کو یقینی بنانا اور بلند شرح سود کے دورانیہ میں کاروباری اخراجات پر اثرات کو کم کرنا ہے۔

غیر ملکی شرح مبادلہ کا خطرہ

غیر ملکی شرح مبادلہ خطرہ عکاسی کرتا ہے کہ کسی مالیاتی انسٹرومنٹ کے آئندہ کے کیش فلو کی فیور و بلیو غیر ملکی شرح مبادلہ میں اتار چڑھاؤ کے باعث کم یا زیادہ ہو جائے گی۔ آئندہ کے معاشی لین دین یا واجب الوصول اور واجب الادا رقوم سے غیر ملکی شرح مبادلہ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے جب غیر ملکی کرنسی میں ٹرانزیکشنز کی جائیں۔ کمپنی کرنسی بنیادی طور پر امریکی ڈالر، یورو، چائیز فرینک اور جاپانی ین کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث غیر ملکی شرح مبادلہ کے خطرے سے دوچار ہوتی ہے۔

معاشی سست روی

کلی اقتصادی صورت حال کی سست روی اور/یا ابتری قابل استعمال آمدنی میں کمی پیدا کر سکتی ہے جس کے باعث صارفین کی قوت خرید میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شعبے کی ترقی ملک کے معاشی حالات کے باعث متاثر ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر معاشی سست روی ریٹیل سیکٹر کی نمو اور کارکردگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی لاگت اور مہنگائی کے باعث حالیہ معاشی صورتحال تنزلی کی جانب گامزن ہے۔ البتہ، معاشی سست روی کے ممکنہ اثرات سے نبرد آزما ہونے کے لئے کمپنی نے لاگت کو کنٹرول کرنے اور آپریشنل کارکردگی جیسے اقدامات کئے ہیں تاکہ مشکل معاشی حالات کے دوران مالیاتی انحصار کو برقرار رکھا جاسکے۔

عالمی اقتصادی و مالیاتی مارکیٹ رسک

جاری جیو پالیٹکل خلل کے باعث اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک جیسی بڑی عالمی معیشتیں مہنگائی کے دباؤ کا شکار ہیں۔ کچھ بڑے عالمی مالیاتی ادارے بڑے ممالک میں کساد بازاری کے آثار دیکھ رہے ہیں جو بین الاقوامی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ جاری اثرات پاکستانی معیشت اور مالیاتی منڈیوں کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں جو بین الاقوامی منڈیوں سے قرض حاصل کرنے کے لئے حکومتی استعداد کو محدود کر کے ملک کی مجموعی کلی اقتصادی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ عالمی معاشی اور مالیاتی منڈی کے خطرات سے نپٹنے کے لئے کمپنی مختلف خطوں میں اپنی آمدنی کے ذرائع میں اضافے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جیو پالیٹیکل بے یقینی اور معاشی اتار چڑھاؤ کے دوران مالیاتی استحکام حاصل کیا جاسکے۔

ریگولیٹری رسک

ریگولیٹری رسک کا تعلق حکومتی پالیسیوں اور ضوابط میں مستقل تبدیلیوں کے امکان سے ہے جو ممکنہ طور پر کمپنی کے مختلف کاروباری شعبوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ریگولیٹری لینڈ اسکیپ میں تبدیلیاں، جیسے کہ درآمدی نرخوں میں تبدیلی جو صنعت کی مجموعی کارکردگی کو خصوصی طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مزید برآں، خام مال یا تیار مصنوعات کی درآمد سے متعلق ریگولیٹری ڈیوٹی یا ٹیکسوں میں کوئی بھی تبدیلی کمپنی کے منافع اور آپریشنل کارکردگی کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے۔

متبادل برانڈز کا خطرہ

ٹیکسٹائل انڈسٹری ممکنہ طور پر متبادل برانڈز کے خطرے سے دوچار ہے جو تیار مصنوعات کی طلب کو متاثر کر سکتا ہے۔ قیمتوں کے لئے حساسیت، عالمی مقابلہ سازی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جدت نے متبادل برانڈز کے انتخاب کے ریسک کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ہماری کمپنی لچک دکھاتی رہتی ہے اور تحقیقی مقاصد اور ڈیولپمنٹ کے لئے سرمایہ کاری کرتی ہے جس میں پلانٹ اور مشینری میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ کمپنی موافق امور کو مد نظر رکھتی ہے تاکہ ان چیلنجز کو موثر انداز میں موڑا جاسکے اور مارکیٹ میں مسابقتی حالت کو برقرار رکھا جاسکے۔

خطرے کے اضافی عوامل

.3

کیپٹل ریسک مینجمنٹ

سرمائے کے انتظام میں کمپنی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کمپنی کاروبار جاری رکھنے کی حالت میں رہے تاکہ یہ اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع دینے کے قابل رہے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کمپنی سے فائدہ اٹھاتے رہیں جو سرمایے کی قیمت کو کم کرنے کے لئے مربوط کیپٹل سٹرکچر کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ کمپنی ایکویٹی، قرضوں اور زیر کار سرمایہ کے انتظام کے ذریعے اپنے آپریشنز میں رقوم صرف کرتی ہے تاکہ خطرے اور لاگت کم کرنے کے لئے قرض کے مختلف وسائل کے مابین مناسب توازن برقرار رکھا جاسکے۔ کمپنی بیرونی سطح پر کسی عائد سرمایے کی ضرورت سے دوچار نہیں ہے۔

منافع

مالی سال 2023ء میں کمپنی کا بعد از ٹیکس منافع مالی سال 2022 میں 174 ملین روپے کے مقابلے میں 208 ملین روپے رہا۔ پروڈکٹس کی طلب میں کمی واقع ہو جائے یا مجموعی معاشی سست روی کے باعث منافع پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

خطرے کے عوامل سے نمٹنے کے لئے کمپنی کی کاوشیں

.4

اگرچہ مارکیٹ میں دیگر حریف بھی موجود ہیں لیکن کمپنی مطلق منڈی میں اپنی ساکھ کے قیام سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس سے خطرے پر اچھی طرح قابو پایا گیا ہے۔ مزید برآں، کمپنی کے سپانسرز ایمبر انڈرڈ کپڑے کی تیاری اور مارکیٹنگ میں 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں جب کہ ترقی کا فیصلہ تجربے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

ڈائریکٹرز/شیئر ہولڈرز نے اپنی متعلقہ رائٹ اینڈ ٹیکمنٹ کے مطابق سبسکرپشن (سبسکرپشن کے انتظام) کا وعدہ کیا ہے۔ رائٹ اجراء کا بقیہ حصہ مروجہ ضوابط کے معیار کے عین مطابق انڈر رائٹ کیا جائے گا۔ لہذا کوئی بڑا خطرہ شامل نہ ہے۔

نوٹ: بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق خطرے کے تمام ٹھوس عوامل کو ظاہر کیا گیا ہے اور اس بابت کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے۔

6. قانونی کارروائیاں

6.1 کمپنی کی زیر التوا قانونی کارروائیاں

عمومی کاروباری امور میں شامل کارروائی کے علاوہ کوئی ٹھوس قانونی کارروائی موجود نہ ہے جو کمپنی پر برے اثرات مرتب کرے۔ مزید برآں، یہ قانونی معاملات پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس میں پہلے ہی ظاہر کئے جا چکے ہیں۔ جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

قانونی حکم کی تاریخ	مجاز اجراء کنندہ	ٹیکس کا دورانیہ، اگر کوئی ہو	آرڈر کی رقم/مالیاتی اثر (ملین روپوں میں)	حالیہ صورت حال	انتظامیہ کا موقف
19.04.2022	سندھ ہائی کورٹ	2016 تا 2020	23.932	زیر التوا	انتظامیہ نے DC (آڈٹ II) ان لینڈ ریوینیو کے جاری کردہ شو کاز نوٹس کے خلاف CP نمبر 2214 اور 2215 برائے 2022 دائر کی۔ فاضل عدالت نے حتمی حکم جاری کرنے سے DC کو روک دیا ہے۔

6.2 اپنے ضوابط کی عدم تعمیل کے باعث گذشتہ تین برسوں کے دوران اجراء کنندہ یا اس کی ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے خلاف

سکیورٹیز ایکچینج کی جانب سے کی گئی کارروائی

کوئی نہیں

6.3 عمومی کاروباری امور کے علاوہ زیر التوا قانونی کارروائی جس میں اجراء کنندہ، اس کے سپانسرز، ممکنہ شیئر ہولڈرز،

ڈائریکٹرز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں، جن پر اجراء کنندہ کا کنٹرول ہے، شامل ہیں جس کے اجراء کنندہ پر ٹھوس اثرات مرتب

ہو سکتے ہیں۔

کوئی نہیں

7. پیشکش کی دستاویز کے دستخط کنندگان

دستخط کنندگان

عظمیٰ احمد	فرناز احمد	اسد احمد
سید حسام اشرف سبزواری	جاوید احمد صدیقی	مریم احمد
	محمد زیاد اختر سید	

ضمیمہ ”A“

کراچی میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مورخہ 19 جنوری 2024ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں ایچ پاکستان لمیٹڈ (”کمپنی“) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد کا متن

قرار پایا کہ کمپنی کا عمومی ادا شدہ سرمایہ -/1,316,398,000 روپے سے بڑھا کر -/2,303,696,500 روپے کر دیا جائے کمپنی کے مزید 98,729,850 عمومی حصص کے اجراء کے ذریعے جس کی مالیت -/10 روپے فی حصص ہے جنہیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 83 اور دیگر تمام مروجہ قوانین کی روشنی میں سبسکرائبڈ حصص کی قیمت پر کمپنی کو ادائیگی کے عوض ہر شیئر ہولڈر کے ملکیتی حصص کے تناسب سے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو -/10 روپے فی حصص کی شرح سے ہر 100 موجودہ عمومی حصص کے لئے 75 رائٹ حصص کے تناسب سے پیش کیا جائے گا۔ یہ حصص ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ عمومی حصص کے مساوی درجہ رکھیں گے (”رائٹ اجراء“).

مزید قرار پایا کہ کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020ء کے ضابطہ (iii)(1)3 کی روشنی میں رائٹ اجراء کا حجم، سائز، قیمت اور مقصد بمعہ آمدنی کا استعمال، کمپنی کے رائٹ اجراء کے فوائد اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز، رائٹ اجراء سے وابستہ رسک فیکٹرز اور حصص کے اجراء کا جواز حسب ذیل ہے:

(a) رائٹ اجراء کا حجم:

رائٹ اجراء کا حجم کمپنی کے موجودہ ادا شدہ سرمایہ کا %75 ہے یعنی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے ہر 100 ملکیتی عمومی حصص کے لئے 75 رائٹ حصص

(b) رائٹ اجراء کا سائز

کمپنی -/10 روپے فی حصص کی قیمت پر 98,729,850 عمومی حصص جاری کرے گی جس کی کل مالیت -/987,298,500 روپے ہے۔

(c) رائٹ اجراء کی قیمت

-/10 روپے فی حصص

(d) رائٹ اجراء کا مقصد

رائٹ اجراء کا مقصد موجودہ پیداواری استعداد کی توسیع کے لئے رقم اکٹھی کرنا اور کمپنی کے سرمایہ زیر کار کی ضروریات کو پورا کرنا ہے جو پائیدار کاروباری نمو کے لئے ضروری ہے۔ یہ اپنی مالیاتی حالت کو مستحکم کرنے کے لئے کمپنی کی وسیع حکمت عملی کے عین مطابق ہے تاکہ منافع میں اضافہ کیا جاسکے اور نتیجتاً شیئر ہولڈرز کو زیادہ ریٹرن فراہم کیا جاسکے۔

(e) رائٹ اجراء کی آمدنی کا استعمال

کمپنی اراضی کی خرید و فروخت ملٹی ہیڈ مشینیں نصب کر کے اپنی موجودہ پیداواری استعداد کی توسیع کے لئے فنڈز اکٹھا کرنے کی غرض سے رائٹ اجراء کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ معیاری مصنوعات کی تیاری کے لئے ایمر اینڈری کے کام کو کم از کم ٹھیکے پر دیا جائے اور لاگت کو کم کیا جاسکے اور مختلف شہروں میں مزید نئے آؤٹ لیٹس کھولے جاسکیں اور سرمایہ زیر کار کی ضروریات کو پورا کیا جاسکے اور مشارکہ فائیننس کو کم کیا جاسکے جس کے نتیجے میں کمپنی کے منافع میں اضافہ ہو۔

ف کمپنی اور شیئر ہولڈرز کے لئے فائدے

رائٹ اجراء کی سبسکرپشن رقم کمپنی کو اپنی استعداد میں توسیع کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں مدد مل سکے اور اپنے سرمایہ زیر کار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے درکار لیکویڈٹی کو دستیاب رکھا جاسکے۔ BMR اور توسیعی منصوبے پر موثر عمل درآمد کمپنی کے منافع پر مثبت اثرات مرتب کرے گا جس کے نتیجے میں اس کے شیئر ہولڈرز مستفید ہوں گے۔

g) رائٹ اجراء سے منسوب خطرات

کمپنی کا رائٹ اجراء ایسی قیمت پر کیا جا رہا ہے جو منڈی میں حصص کی موجودہ قیمت سے کم ہے لہذا رائٹ اجراء کی بابت کوئی بڑا سرمایہ کاری خطرہ موجود نہ ہے۔ ڈائریکٹرز/شیئر ہولڈرز نے اپنی متعلقہ رائٹ اینڈ ٹیکمنٹ کی سبسکرپشن (یا سبسکرپشن کے انتظام) کا عہد کیا ہے۔ رائٹ اجراء کا بقیہ حصہ مروجہ ضوابط کے تحت مکمل طور پر انڈر رائٹ کیا جائے گا۔ کاروبار سے وابستہ دیگر عمومی خطرات قائم رہیں گے۔

مزید قرار پایا کہ مروجہ قوانین کی تعمیل میں پیشکش کے خط کمپنی کے کوئی دو ڈائریکٹرز جاری/ دستخط کر سکتے ہیں۔

مزید قرار پایا کہ تمام مناسب اینڈ ٹیکمنٹس، اگر کوئی ہوں، کو کمپنی سیکریٹری کے نام پر (امانتاً) جمع کیا جائے گا اور اس بابت غیر ادا شدہ لیٹر آف رائٹس کو پاکستان اسٹاک ایکچینج لیٹیڈ ("PSX") میں فروخت کر دیا جائے گا اور اس فروخت سے حاصل خالص آمدنی، وصولی کے بعد، کو ضوابط کے تحت ان کی متعلقہ اینڈ ٹیکمنٹس کے تناسب سے اہل شیئر ہولڈرز کو تقسیم/ ادا کی جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی ایکٹ کے سیکشن (iv)(a)(1)83 کے تحت ان سبسکرپٹرز کو حصص کو سبسکرپٹ کرنے کے لئے انڈر رائٹرز کو طلب کرنے سے قبل ڈائریکٹرز ان سبسکرپٹرز کو اپنی صوابدید پر کسی بھی فرد، سپانسرز/ ممکنہ شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز یا کمپنی کی ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکمنٹرز کو (سبسکرپشن ہونے پر) پیش یا الاٹ کر سکتے ہیں۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور/ یا کمپنی سیکریٹری اور/ یا چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہذا پیشکش کی دستاویز/ خط کو تیار کرنے، اس پر نظر ثانی کرنے اور اسے حتمی شکل دینے اور اسے سکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") اور PSX کے ساتھ شیئر کرنے اور SECP اور PSX کے مشاہدات اور تبدیلیوں کی بنیاد پر ان پر نظر ثانی کرنے، جو کہ ان کی طرف سے مناسب سمجھا جائے، ضوابط کے تحت مجوزہ طریقے سے، اس سلسلے میں دیگر ضروری دستاویز تیار کرنے اور جمع کرانے کا مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔ جب کہ ڈرافٹ آف لیٹر PSX کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا اور اس پر عوامی رائے طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو مسٹر اسد احمد اور کمپنی سیکریٹری مسٹر ہارون سعید کو کمپنی کی جانب سے انفرادی طور پر مندرجہ ذیل کے لئے مجاز ٹھہرایا جاتا ہے:

(i) شرائط و ضوابط کو حتمی شکل دینے کے لئے کنسلٹنٹس/ ایڈوائزرز/ آڈیٹرز اور رائٹ اجراء کے انڈر رائٹرز/ انڈر رائٹرز سے تبادلہ خیال یا ان کی تقرری کرنا اور انڈر رائٹنگ معاہدہ/ معاہدوں اور دیگر دستاویزات پر دستخط کرنا اور فیس، انڈر رائٹنگ کمیشن، ٹیک اپ کمیشن اور تھرڈ پارٹی اخراجات اور/ یا رائٹ اجراء کی بابت دیگر اخراجات طے/ ادا کرنا؛

(ii) رائٹ حصص کے اجراء کے لئے شیڈول تیار کرنا جس میں ادائیگی کی تاریخ شامل ہے اور مذکورہ شیڈول میں ترمیم کرنا، سکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)/ پاکستان اسٹاک ایکچینج (PSX)/ سنٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان (CDC) (بشمول لیکن محدود نہیں، CDC کے سنٹرل ڈیپازٹری سٹم میں رائٹ حصص کے لئے پیشکش کا اندراج) یا دیگر اتھارٹی کے تحت بینکر/ بینکرز کی تقرری کرنا، کتابوں کی بندش کی تاریخ کا اعلان کرنا اور رائٹ اجراء اور اس کے دیگر ضروری معاملات کی بابت تمام ضروری اقدامات کرنا؛

- (iii) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر books کی بندش کا فیصلہ و اعلان کرنا جس میں اس کی تاریخ شامل ہو، اور رائٹ اجراء کی بابت کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی اہلیت کا تعین کرنا؛
- (iv) حصص کی سبسکرپشن سے وصول رقم کو رکھنے کے لئے بینک اکاؤنٹ کھولنا، برقرار رکھنا، چلانا اور بند کرنا؛
- (v) آڈیٹرز کے ٹیمپلیٹ کے ہمراہ CDC/PSX/SECP کی ضروریات کے مطابق رائٹ حصص الاٹ/کریڈٹ کرنا اور ریٹرنز جمع کرانا؛
- (vi) آفر لیٹر/دستاویز کو تیار کرنے/حتمی شکل دینے کے لئے دیگر ضروری اقدامات کرنا، رائٹ شیئرز اور دیگر دستاویزات کے اجراء اور مذکورہ دستاویزات میں کوئی ترمیم کرنے کے لئے سرکلر اور شیڈول اور تمام ضروری کارروائی کرنا جو اس سلسلے میں درکار ہو بشمول کسی بھی دستاویزات پر عمل درآمد اور معاہدوں یا مندرجہ بالا قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اقدام کرنا۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا مندرجات 19 جنوری 2024ء کو کراچی میں ایچ پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منعقد ہونے والے اجلاس کا بالکل درست اور کارآمد متن ہیں۔

ایم ہارون سعید
کمپنی سیکریٹری

24 جنوری، 2024ء

کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020ء کے ضابطہ (vi) (3) کے تحت درج معیارات پر عمل درآمد کا بیان
کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 83 کے تحت ڈرافٹ سرکلر اور دی گئی آراء کی بنیاد پر سرکلر مس کی گئی تبدیلیوں پر
سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے خط مؤرخہ 23 فروری، 2024ء کے ذریعے موصول آراء کی بابت

نمبر شمار	نام فرد	موصول رائے	کیا کمپنی نے رائے سے اتفاق/ انکار کیا	مجوزہ تبدیلی اگر متفق ہوں	دلیل
1		ابتدائیہ			
i	سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان	حتمی آفر لیٹر، کتابوں کی بندش کی تاریخ، سبسکرپشن کی رقم کی ادائیگی اور لیٹر آف رائٹس جنہیں حتمی دستاویز میں شامل کیا جانا ہے	متفق	شامل	تاریخیں داخل کی گئیں
ii	سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان	پیشکش کے خط کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے مکمل لنک داخل کریں	متفق	شامل	آفر لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے مکمل لنک داخل کیا گیا
iii		ابتدائیہ (صفحہ 4) اور "کنٹیکٹ" اصطلاحات اور تصریحات کی لغت، (صفحہ 7) میں درج "اجراء کا پیکنگ" کے نام کی بابت سقم ختم کریں	متفق	درست کیا گیا	میزان بینک لمیٹڈ کو "اجرا کا پیکنگ" مقرر کیا گیا
2		CEO اور CFO کا حلف نامہ			
		حتمی دستاویز میں حلف نامے پر متعلقہ دستخط کنندگان دستخط کریں گے۔	متفق	داخل کیا گیا	دستخط شدہ حلف نامہ شامل کیا گیا
3		بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حلف نامہ			
.i		شیڈول 1 کے حلف نامے کی شق vii کو حتمی پیشکش کی دستاویز (OD) میں بورڈ آف ڈائریکٹرز (بورڈ) کے حلف نامے میں شامل کیا جائے	متفق	شامل	بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حلف نامے کی شق vii ملاحظہ کریں۔
.ii		پیشکش کی دستاویز میں بورڈ کے حلف نامہ کی موجودہ شق vii میں "اگر رائٹ" حصص جاری کرنے والی لسنڈ کمپنی کے اجراء کی آمدنی 750 ملین یا ادا شدہ سرمایہ کے 50%، جو بھی زیادہ ہو سے تجاوز کر جائے تو، کو حذف کر کے ترمیم کی جائے۔	متفق	سٹر حذف کی گئی	بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حلف نامہ کی شق ix ملاحظہ کریں

دستخط شدہ حلف نامہ شامل کیا گیا۔	داخل کیا گیا	متفق	حتمی OD میں متعلقہ دستخط کنندگان حلف نامے پر دستخط کریں گے	.iii
			تکنیکی اصطلاحات اور تصریحات کی لغت	.4
تکنیکی اصطلاحات کی لغت ملاحظہ کریں	تفصیلات شامل کی گئیں	متفق	ضوابط کے نام کو بطور دیکھبیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020ء درست کریں۔	.i
تکنیکی اصطلاحات کی لغت ملاحظہ کریں	ترمیم کی گئی	متفق	جدول میں ”ضوابط“ کی تعریف دیکھبیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020ء ہوگی۔	.ii
			ڈرافٹ پیشکش کی دستاویز میں رائٹ اجراء کی نمایاں خصوصیات	.5
مکمل	تبدیلیاں کی گئیں	متفق	سیکشن 1.1 میں ’رائٹ اجراء کی آمدنی کے استعمال کا مختصر مقصد‘ کے نکتہ ’h‘ میں رائٹ آمدنی کے استعمال کے تمام مقاصد یعنی کمپنی اراضی کی خرید اور نئی ملٹی ہیڈ مشینیں نصب کر کے اپنی موجودہ پیداواری استعداد کی توسیع کے لئے فنڈز اکٹھا کرنے کی غرض سے رائٹ اجراء کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ معیاری مصنوعات کی تیاری کے لئے ایمر اینڈری کے کام کو کم از کم ٹھیکے پر دیا جائے اور لاگت کو کم کیا جاسکے اور مختلف شہروں میں مزید نئے آؤٹ لیٹس کھولے جاسکیں اور سرمایہ زیر کار کی ضروریات کو پورا کیا جاسکے اور مشارکہ فائننس کو کم کیا جاسکے۔ رائٹ اجراء کے مقصد کے لئے۔ حالیہ رائٹ اجراء کے ذریعے رقوم جمع کرنے کی خاطر بنیادی مقاصد کی تفصیلات کے نکتہ ’a‘ میں رقوم اکٹھا کرنے کے لئے بنیادی مقاصد فراہم کئے جاسکتے ہیں یعنی معیاری مصنوعات کی تیاری، لاگت میں کمی، مختلف شہروں میں نئے آؤٹ لیٹس کے قیام، کمپنی کے منافع میں اضافہ کے لئے ایمر اینڈری کے کام کو کم سے کم ٹھیکے پر دیا جائے۔	.i

آمدنی کی رقم جدول کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔	تفصیلات شامل	متفق	رائٹ اجراء کے بنیادی مقصد کی تفصیلات سیکشن 1.2 (A) میں سکیشن 1.1 (i) میں درج مختلف آئیٹمز کے لئے استعمال کی جانے والی آمدنی کا آئیٹم وائز بریک اپ فراہم کریں۔	.ii
آمدنی کی رقم جدول کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔	تفصیلات شامل	متفق	سیکشن 1.2 (B) رائٹ اجراء کے مقصد کی بابت اضافی اظہار: ضوابط کے شیڈول 1 کی شق (B)(ii) 7 میں درج اظہار کے معیارات کی تعمیل کریں۔	.iii
مکمل	تفصیلات شامل	متفق	سیکشن 1.3 رائٹ اجراء سے پیدا ہونے والے مالیاتی اثرات: ● پیداواری استعداد شامل کریں اور اگر دستیاب ہو تو جدول میں مارکیٹ شیئر بھی فراہم کریں ● حاشیہ میں اجراء سے قبل اور مابعد بریک اپ ویلیو کے تعین کی تفصیلات ظاہر کریں۔ ● حاشیہ میں اجراء سے قبل اور مابعد بریک اپ گیسٹریٹ ریشو کے تعین کی تفصیلات ظاہر کریں	iv
انڈر رائٹنگ کمیشن کی فیصد بیان کی گئی ہے۔	شامل	متفق	سیکشن 1.4: اجراء کے کل اخراجات، انڈر رائٹنگ کمیشن حتمی OD میں ظاہر کیا جائے۔	.v
تمام انڈر رائٹرز کی جانب سے انڈر رائٹ کی گئی رقم بیان کی گئی ہے۔	شامل	متفق	سیکشن 1.5، انڈر رائٹرز کی تفصیلات: OD میں انڈر رائٹ کی گئی رقم ظاہر کی جائے	.vi

تفصیلات شامل کر دی گئی ہیں۔	شامل	متفق	سیکشن 1.8 اہم تواریخ: حتمی OD میں ہر پروسیجر کے لئے دن اور تاریخ شامل کی جائے۔	.vii
			سبسکرپشن رقم کی ادائیگی کا طریقہ	.6
تفصیلات شامل کر دی گئی ہیں۔	شامل	متفق	نکتہ (a) کے نیچے رائٹ سبسکرپشن درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کا مکمل لنک داخل کریں۔	
			اجراء کنندہ کی مالیاتی تفصیلات	.7
تفصیلات شامل کر دی گئی ہیں	شامل	متفق	سیکشن 4.1- گذشتہ تین برس کے لئے اجراء کنندہ کے مالیاتی اشاریے: ● ضوابط کے شیڈول 1 کے پیرا 10 میں دی گئی وضع کے مطابق غیر منجمد مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر گذشتہ تین برسوں کے لئے اجراء کنندہ کے مالیاتی اشاریے درج کریں ● قانونی آڈیٹرز کا نام درج کریں ● فی حصص بریک اپ ویلیو درج کریں ● ضوابط کے شیڈول 1 کے پیرا 10(ii) کے مطابق منجمد مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر گذشتہ برس کے لئے اجراء کنندہ کے مالیاتی اشاریے درج کریں	.i
تفصیلات شامل کر دی گئی ہیں	شامل	متفق	سیکشن 4.2، گذشتہ پانچ برسوں میں سرمایہ کے اجراء کی تفصیلات: ضوابط کے شیڈول 1 کے پیرا 10(iii) کے مطابق جدول کی وضع کو ترتیب دیں۔	.ii

تفصیلات شامل کردی گئی ہیں	شامل	متفق	<p>سیکشن 4.4، پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ برائے اجراء کنندہ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ”اجراء کنندہ کے پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ“ ٹیبل اور ”اجراء کنندہ کے ڈائریکٹرز کے ملکیتی حصص“ ٹیبل میں مس فرنازا احمد اور مس مریم احمد کی شیئر ہولڈنگ میں فرق ● جدول بعنوان ”اجراء کنندہ کے ڈائریکٹرز کے ملکیتی حصص“ میں مابعد اجراء حصص کی تعداد میں اضافہ کو ڈائریکٹرز کی جانب سے سبسکریپشن کے عین مطابق درست کریں۔ 	iii	
			خطرے کے عوامل	.8	
مخصوص خطرے کا تعین اور اس کے تدارک کو شامل کیا گیا	متعلقہ تفصیلات شامل کی گئیں	متفق	<ul style="list-style-type: none"> ● بیان کردہ تمام رسک عمومی ہیں، رسک فیکٹرز کو کمپنی اور رائٹ اجراء پر اثرات کے لحاظ سے درج کریں۔ ● ان خطرات کے تدارک کی بابت اقدامات بیان کریں۔ ● اضافی رسک فیکٹرز - نفع کا رسک: نفع کے اعداد درست کریں کیونکہ درج اعداد مالیاتی اسٹیٹمنٹس سے مختلف ہیں۔ 		
نفع کے اعداد کو درست کیا گیا			قانونی کارروائیاں	.9	

باوجودیکہ کمپنی کی تمام قانونی کارروائیاں عمومی کاروباری امور پر ہیں جنہیں کمپنی کے پڑتال شدہ کھاتوں میں قبل ازیں بیان کر دیا گیا ہے۔ مخصوص قانونی کارروائیوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔	تفصیلات شامل	متفق	ضوابط کے شیڈول 1 کے پیرا (iii) 12 میں دی گئی وضع کے مطابق کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی بیان کریں۔	
			پیشکش کی دستاویز کے دستخط کنندگان	.10
دستخط شدہ	تفصیلات شامل	متفق	تمام متعلقہ دستخط کنندگان حتمی پیشکش کی دستاویز پر دستخط کریں گے۔	